

بین مذہبی مذاکرات

احکام و آداب

حضرت مولانا مفتی اختر امام عادل قاسمی

مہتمم جامعہ ربانی منور واشریف، سستی پور بہار

شائع کر دہ

مفتی ظفیر الدین اکیڈیمی، جامعہ ربانی منور واشریف

مختلف قویں جب ایک مقام پر رہتی ہیں تو کئی سیاسی یا سماجی مسائل کے لئے باہم ایک دوسرے سے مذاکرات اور گفت و شنید کی ضرورت پڑتی ہے، جن کی بنیاد ایک دوسرے کے جذبات اور تقاضوں کے احترام اور عایت پر ہوتی ہے، قیام امن، بقاء باہم اور فتنہ و فساد سے بچنے کے لئے شریعت مطہرہ میں اس کی گنجائش ہے، بلکہ اس کی عملی مثالیں بھی عہد نبوت میں موجود ہیں، ایک مقام پر رہنے والے شہریوں کے درمیان بھی، اور دیگر علاقوں اور قبائل کے مابین بھی

مذہبی بنیادوں پر مذاکرات ممکن نہیں

عہد نبوت کے بعد بھی ملکوں اور قوموں کے درمیان ہر دور کے اپنے معیار کے مطابق اس قسم کے معاهدات و مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن عموماً یہ معاهدات سماجی یا سیاسی نوعیت کے ہوتے تھے، ان میں کبھی مذہبی بنیادوں کو شامل نہیں کیا گیا، اس لئے کہ مذاکرات کے لئے مشترکہ بنیادوں کی ضرورت ہے، اور کوئی قوم بالخصوص امت مسلمہ کسی حال میں اپنی مذہبی بنیادوں پر صلح نہیں کر سکتی، چنانچہ عہد نبوت کے ابتدائی کمی دور میں رسول اللہ ﷺ کو مذہبی بنیادوں پر مصالحت کی پیش کش کی گئی تھی، لیکن اللہ پاک کے حکم پر آپ نے اس کو مسترد کر دیا، روایات میں آتا ہے کہ کافر اکثریت جب مسلمانوں کے عزم

و استقلال میں جنبش پیدا نہ کر سکی تو انہوں نے بعض مصالحانہ پیش کشیں کی تھیں ، ان میں ایک یہ تھی کہ ایک سال آپ ہمارے خداوں کی پرستش کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں ، حضرت عبد اللہ بن عباس راوی ہیں کہ قریش مکہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ :

فِإِنَا نَفْرَضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَلَكَ فِيهَا صَلَاحٌ قَالَ وَمَا هِيَ قَالَ تَعْبُدْ إِلَهَنَا سَنَةَ الْلَّاتِ وَالْعَزِيزِ وَنَعْبُدْ إِلَهَكَ سَنَةَ قَالَ حَتَّى أَنْظُرْ مَا يَأْتِينِي مِنْ رَبِّي فَجَاءَ الرَّوْحُ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْلَّوْحِ¹

ترجمہ : ہم آپ کے پاس ایک تجویز پیش کرتے ہیں، جس میں آپ کے لئے بھائی ہے آپ نے دریافت فرمایا، کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ایک سال آپ ہمارے معبودوں لات و عزی وغیرہ کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں، (یعنی بقائے باہم کے اصول پر ہم ایک دوسرے کو تسليم کریں اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں)، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں حکم الہی کا انتظار کروں گا، پھر جواب دوں گا، آخر لوح محفوظ

¹ - الروض الداني - المعجم الصغير ج ۲ ص ۳۲ حديث نمبر: ۷۵۱ المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني الناشر : المكتب الإسلامي ، دار عمار - بيروت ، عمان الطبعة الأولى ، 1405 - 1985 تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمير عدّ الأجزاء : 2)

سے اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی، سورہ کافرون، اور قرآن کریم نے
اس نظریہ کو بالکل ناقابل قبول قرار دیا ۖ یا آئیہا الکافِرُونَ (۱) لَا أَعْبُدُ
مَا تَعْبُدُونَ (۲) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (۳) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
(۴) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (۵) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِینِ (۶)²

ترجمہ: آپ کہدیجتے: اے کافرو! جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی
میں عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ تم اس کی عبادت کر سکتے ہو جس کی میں عبادت
کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا ان خداوں کی جن کی تم کرتے ہو اور نہ تم
کبھی میرے معبد کی عبادت کرو گے، تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے
لئے میرا دین ہے۔

بعض تفسیری روایات میں ہے کہ انہوں نے مذہبی ہم آنگلی کی پیشکش
کی تھی، یعنی ہمارے دین میں جو ثابت چیزیں ہیں وہ آپ قبول کر لیں اور آپ کے

یہاں جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہم قبول کر لیتے ہیں:

فِإِنْ كَانَ الَّذِي جَهَنَّمْ بِهِ خَيْرًا كَنَا قَدْ شرَكْنَاكَ فِيهِ ، وَأَخْذَنَا
حَظْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَأَيْدِينَا خَيْرًا كَنْتَ قَدْ شرَكْنَا فِي أَمْرِنَا ،
وَأَخْذَتْ بِحَظْكَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَعَاذْ

الله أَنْ أَشْرِكَ بِهِ غَيْرُهُ »³

یہ پیش کش ایسے وقت ہوئی، جب مسلمان انتہائی کمزور اقلیت میں تھے، ہر طرف سے مخالفوں اور فتنوں کی یلغار تھی، ان کو اپنے تحفظ کی سخت ضرورت تھی، اور کہیں سے کسی حمایت کی کوئی کرن موجود نہیں تھی، ان کے لئے یہ بظاہر اچھا موقعہ تھا کہ وہ بقائے باہم اور قیام امن کے اصول پر اس حصار کو قبول کر لیں، لیکن ان نازک حالات میں بھی قرآن نے مذہبی بنیادوں پر کسی مذاکرہ کی اجازت نہیں دی، اور ایک ہی مضمون کے لئے مکر ر آیات لا کر اس اتحاد کی جڑکاٹ کر کھدی، تاکہ معلوم ہو کہ یہ مذاکرہ نہ آج ممکن ہے اور نہ کبھی آئندہ اس قسم کا مذاکرہ قابل قبول ہو سکتا ہے ⁴

امت کی تہذیبی شناخت کو خطرہ

مذہبی بنیادوں پر مذاکرات کا سب سے زیادہ مضمرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اس سے امت کی مذہبی شناخت اور تہذیبی وحدت ختم ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ امت مسلمه اقوام عالم کے درمیان اپنی ایک شناخت رکھتی ہے، اور

³ - لباب التأویل في معانی التزیل ج ۲ ص ۳۱۹ المؤلف : علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشیحی أبو الحسن ، المعروف بالخازن (المتوفى : 741ھ)

⁴ - تفسیر القرآن العظیم ج ۸ ص ۵۰۸ المؤلف : أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثير القرشی الدمشقی (المتوفى : 774ھ) المحقق : سا۔ می بن محمد سلامہ الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع الطبعة : الثانية 1420ھ - 1999 م عدد الأجزاء : 8

اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کسی حال میں اپنے دینی اور ملی امتیازات ترک نہیں کئے، اقتدار میں رہی تب بھی، اور اقتدار سے محروم ہوئی جب بھی، دنیا کی کسی قوم اور مذہب کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے، ان کی قومی اور سیاسی زندگیوں میں مذہب کبھی طاقتور عصر کی حیثیت سے نہیں رہا، کلیسا کا عبوری دور، مذہب کا دور مانا جاتا ہے مگر اس کی شدت پسندی نے مذہب کو فائدہ پہنچانے کے بجائے، نقصان ہی پہنچایا، یہ اس کی مدت اتنی مختصر رہی کہ اس کو شمار میں نہیں لایا جاسکتا۔

اس لیے وہ تمام طاقتیں جن کو امتِ مسلمہ کا یہ امتیاز آنکھوں میں کانٹا بن کر کھٹک رہا ہے، چاہتی ہیں کہ مذہب اس امت کی زندگی سے بھی نکل جائے، اور اس کے لیے ان کے یہاں مختلف تدابیر اور منصوبے زیر عمل اور زیر غور ہیں، عالمی طور پر ثقافتی انجذاب، اور تمدنی وحدت کی تحریک بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ ایک ایسی وحدت قائم کی جائے جس میں کسی مذہب کا اپنا وجود نہ ہو، سب مل کر کام کریں اور تمام کی اچھی اور لاکن اتفاق باتوں کا ایک مجموعہ تیار کیا جائے، جو اس وحدت جدیدہ کا لائجہ عمل ہو، اس لیے کہ تمام مذاہب کا سرچشمہ ایک ہے، صرف راستے الگ الگ ہیں۔

تاریخی جائزہ سے پتہ چلتا ہے کہ تمدنی اور ثقافتی وحدت و

انجداب کا یہ تصور بہت قدیم ہے اور ہر دور میں اہل کفر، اہل ایمان سے یہی خواہش کرتے رہے ہیں کہ اپنا امتیاز ترک کر کے ہماری وحدت میں شامل ہو جائیں خود قرآن کا بیان ہے۔

وَدُّوا لَوْ تَكُفُّرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُوُنُونَ سَوَاءً فَلَا تَسْخِذُوا

⁵ مِنْهُمْ أُولَيَاءَ

ترجمہ: اہل کفر خواہش رکھتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کفر قبول کر لو تاکہ تم ان کے برابر ہو جاؤ مگر ان کی خواہش پر ہرگز عمل نہ کرو اور ان سے دوستانہ وحدت قائم نہ کرو۔

یعنی ہر ایسی وحدت اسلام میں مسترد کر دی جائے گی، جو ہمیں اسلام سے کچھیچ کر کفر سے قریب کر دے شیطان، نار کی طرف کھینپتا ہے، اور رحمان جنت کی طرف، نار کی طرف جانے والا راستہ قابل ردد ہے۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں اہل دنیا کے لیے بعض بنیادیں ایسی موجود رہی ہیں جو ان کو ایک وحدت و انجداب سے منسلک رکھتی تھیں۔

حضرت ابراہیمؑ کے حوالہ سے قرآن نے بیان کیا ہے:

إِنَّمَا اتَّخَذُتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ

ترجمہ: تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ چند بُت بنارکھے ہیں، جو دنیوی زندگی میں تمہاری باہم وحدت و محبت کا ذریعہ ہیں۔

یہ بت ہر دور کے لحاظ سے مختلف ہوتے رہتے ہیں لیکن بُت خواہ جو شکل بھی اختیار کر لے وہ بت ہی رہے گا۔ قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے قبل پوری انسانیت ایک وحدت پرروائ تھی، پیغمبروں اور رسولوں کے سلسلے نے ہی اس وحدت کو توڑا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ رسولوں کی تعلیمات صحیح طور پر ہمارے پاس موجود ہوں اور عہدِ جاہلیت کی وہ وحدت دوبارہ لوٹ کر آجائے۔۔۔ قرآن کہتا ہے:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ⁷

ترجمہ: تمام لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو مبشر و نذیر بنایا کر مبعوث فرمایا۔
اسلام مکمل خود سپردگی کا نام ہے
مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ قرآن کے اس حکم کی تعییل کریں،

⁶ - عنکبوت: ۲۵

⁷ - البقرہ: ۲۱۳

جو بڑی قطعیت کے ساتھ قرآن نے دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَةً وَلَا تَنْهَوْا
خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ⁸

ترجمہ: اے ایمان والو! اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور
شیطانی راستوں کی پیروی نہ کرو۔

اس آیت کے نزول کا تاریخی پس منظر سامنے رکھیں تو بات
اور بھی زیادہ صاف ہو جائے گی بعض نو مسلم حضرات جو پہلے یہودی
تھے مثلاً حضرت عبد اللہ بن سلام، اور اسد بن عبید وغیرہ ان لوگوں
نے سوچا کہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے سابقہ مذہب کے بعض ان احکام
کی رعایت بھی ملحوظ رکھی جائے جو اسلامی احکام سے متصادم نہ ہوں،
اس آیت کریمہ میں دراصل اسی فکر پر ضرب لگائی گئی ہے کہ ممحض
اسلام قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں پورے طور پر داخل
ہونا ضروری ہے، بایں طور کہ اس میں کسی دوسرے مذہب و قوم کا کوئی
شاہنہ تک باقی نہ رہے۔

“کافہ” کی تشریح کرتے ہوئے زیادہ تر مفسرین کا خیال یہ ہے
کہ اس کا تعلق داخل ہونے والے سے نہیں، بلکہ اسلام سے ہے کہ
اسلام کے تمام شرائع و احکام کو قبول کرنا، مسلمان کے لیے لازم ہے،

ادھورا یا مخلوط اسلام، خدا اور رسول کے نزدیک معتبر نہیں۔⁹

اور اسی سے ملتا جلتا ایک پس منظر تھا جس میں حضرت عمرؓ
”تورات“ کا نسخہ لے کر آگئے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا،
لب و لہبہ کی گرمی محسوس فرمائے۔

والذی نفس محمد بیده لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموه
وترکتمونی لضلالتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وأدرك نبوی
لاتبعنی قال حسین سلیم اسد : إسناده ضعیف لضعف مجالد ولكن
الحادیث حسن¹⁰

⁹ - دیکھئے : تفسیر القرآن العظیم ج ۱ / ص ۵۶۶ المؤلف : أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی (المتوفی : ۷۷۴ھ) الحقق : سامی بن محمد سلامة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع الطبعة : الشانیة ۱۴۲۰ھ -

1999 م عدد الأجزاء : 8 ، تفسیر کبیر للامام الرازی: ج ۵ / ص ۲۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۸۳ء، الجامع لاحکام القرآن: ۳ / ۳۹۳ مطبوعہ مؤسسة الرسالت بیروت ۱۴۰۷ھ (۲۰۰۶ء)

¹⁰ - سنن الدارمی ج ۱ ص ۱۲۶ حدیث نمبر: ۲۳۵: المؤلف : عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمی الناشر : دار الكتاب العربي - بیروت الطبعة الأولى ، 1407 تحقیق : فواز أحمد زمری ، خالد السبع العلمی عدد الأجزاء : 2 الأحادیث مذيلة بأحكام حسین سلیم اسد علیہا)

ترجمہ : اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے
اگر تمہارے سامنے موسیٰ ظاہر ہوں اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی اتباع
کرنے لگو تو تم گمراہ قرار پاؤ گے، یقین رکھو اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور
میرا عہد نبوت پاتے تو وہ میری اتباع کرتے۔

ایک مرتبہ حضرت خصہ حضرت یوسف کے قصور کی ایک کتاب
لے کر آئیں، اور حضور ﷺ کے سامنے پڑھ کر سنانے لگیں، حضرت خصہ کے
اس عمل سے مزاج نبوت میں تغیر آنے لگا، آپ نے ناراض ہو کر ارشاد فرمایا:
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَتَاكُمْ يُوسُفُ وَأَنَا بَيْنَكُمْ فَاتَّبَعْتُمُوهُ
وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَّلْتُمْ¹¹

ترجمہ : قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر
تمہارے پاس یوسف آجائیں اور میں موجود ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع
کرنے لگو تو تم گمراہ قرار پاؤ گے۔

¹¹ - شعب الإيمان ج ۷ ص ۱۷۳ حدیث نمبر: ۱۳۸۳۰ المؤلف : أحمد بن الحسين
بن علي بن موسى الخسرو جردي الخراساني، أبو بكر البهيفي (المتوفى :
458ھـ) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديشه : الدكتور عبد العلي عبد
الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتحريجه أحاديشه : مختار أحمد الندوبي ،
صاحب الدار السلفية ببومباي – الهند الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
بالریاض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة : الأولى ، 1423
ھـ - 2003 م

یہاں صرف اس درجہ کا ایمان قبلی قبول ہے جو حضور ﷺ کی ناراضی کے بعد حضرت عمرؓ نے عرض کیا تھا:
 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضْبِ اللَّهِ وَمِنْ غَضْبِ رَسُولِهِ رَضِيَ اللَّهُ بِهِ
 وَبِالإِسْلَامِ دِينِ وَبِمُحَمَّدِ نَبِيِّ¹²

ترجمہ: میں اللہ اور رسول کے غصب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ہم اللہ سے راضی ہیں بحیثیت رب اور اسلام سے راضی ہیں بحیثیت مذہب، اور محمد ﷺ سے بحیثیت نبی راضی ہیں۔

تہذیب تحریف کی ہدایات

نیز نبی اکرم ﷺ نے مختلف موقع پر غیر مسلموں کی مخالفت کرنے کے جو احکام دیئے ہیں، ان کی روح بھی یہی تہذیبی و تمدنی اختلاط سے پرہیز ہے، اس لئے کہ بہت زیادہ سماجی قربت سے تہذیبی اختلاط کا سخت اندیشه ہوتا ہے:

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

¹² - حوالہ بالا

☆ «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ¹³

ترجمہ: جو کسی قوم کی نقل اتارے اس کا شمار اسی کے ساتھ ہو گا۔

☆ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے میرے اوپر دو زعفرانی رنگ کے کپڑے دیکھے تو ارشاد فرمایا:

«إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبِسْهَا». ¹⁴

ترجمہ: یہ کفار کا لباس ہے اس کو مت پہنو۔

¹³ - سنن أبي داود ج ۲ ص ۸۷ حدیث نمبر: ۳۰۳۳ المؤلف : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت عدد الأجزاء : ۴) : مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ۹ ص ۱۲۶ حدیث نمبر : ۵۱۱۵ المؤلف : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى : 241هـ) المحقق : شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد ، وآخرون إشراف : د عبد الله بن عبد الحسن التركي الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعه : الأولى ، 1421 هـ - 2001 م

¹⁴ - الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ج ۶ ص ۱۴۳ حدیث غیر ۵۵۵۵ المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري اليسابوري المحقق : الناشر : دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة – بيروت الطبعه : عدد الأجزاء : ثمانية أجزاء في أربع مجلدات)

☆ حضرت رُکانہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے
ارشاد فرمایا:

إِنَّ فَرْقَ مَا يَبْيَنُ وَبَيْنَ الْمُسْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ قَالَ
أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلَا تَعْرِفُ أَبَا
الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيَّ وَلَا ابْنَ رُكَانَةَ¹⁵

ترجمہ: ہمارے اور مشرکین کے عماموں میں فرق یہ ہے کہ
ہمارا عمامہ ٹوبیوں پر ہوتا ہے ان کا نہیں۔

☆ حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو پیتل کی انگوٹھی پہنے دیکھا تو فرمایا میں تمہارے اندر بتوں کی بو محسوس کر رہا ہوں، اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا تو حضور ﷺ نے فرمایا میں تم پر اہل جہنم کا زیور دیکھ رہا ہوں، اس نے اس کو بھی پھینک دیا، اور دریافت کیا کہ کس چیز کی انگوٹھی بناؤں، آپ نے فرمایا چاندی کی اور اس کا وزن ایک مشقال

¹⁵ - الجامع الصحيح سنن الترمذی ج ۳۲ ص ۲۳۷ حدیث نمبر: ۱۸۳ المؤلف :

محمد بن عیسیٰ أبو عیسیٰ الترمذی السلمی الناشر : دار إحياء التراث
العربي - بیروت تحقیق : أحمد محمد شاکر و آخرین عدد الأجزاء : ۵)

سے کم رہے۔¹⁶

☆ حضرت ابو ہریرۃؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

¹⁷ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبَغُونَ فَخَالُوْهُمْ

ترجمہ: یہود و نصاریٰ بالوں میں خضاب نہیں لگاتے تم ان کی
مخالفت کرو۔

☆ حضرت ابو ہریرۃؓ کی روایت ہے، حضور ﷺ نے ارشاد

فرمایا:

¹⁸ غَيْرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشْبَهُوا الْيَهُودَ

ترجمہ: سفیدی کو بدلو اور یہود کی نقل نہ اتناوو۔

¹⁶ - مسنند الإمام أحمد بن حنبل ج ۵ ص ۳۵۹ حدیث نمبر: ۲۳۰۸۳ المؤلف :

أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة عدد
الأجزاء : ۶ الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط عليهما

¹⁷ - الجامع الصحيح المختصر ج ۳ ص ۱۲۷۵ حدیث نمبر : ۳۲۷۵ المؤلف :

: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثير ،
اليماة - بيروت الطبعة الثالثة ، ۱۴۰۷ - ۱۹۸۷ ()

¹⁸ - الجامع الصحيح سنن الترمذی ج ۴ ص ۲۳۲ المؤلف : محمد بن عیسیٰ

أبو عیسیٰ الترمذی السلمی الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت
تحقيق : أحمد محمد شاکر و آخرون عدد الأجزاء : ۵ ()

☆ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو اس کا حکم دیا، تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہود و نصاریٰ اس دن کا بہت احترام کرتے ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«لَيْنَ بَقِيَتُ إِلَى قَابِلٍ لَا صُومَنَّ النَّاسِ»¹⁹.

ترجمہ: آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو نویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔

☆ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے آپؐ نے ارشاد فرمایا:

اللَّهُدْ لَنَا وَالشَّقْ لَغَيْرِنَا²⁰

ترجمہ: لحد ہمارے لئے اور شق ہمارے غیروں کے لئے ہے،

☆ حضرت ام سلمہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہفتہ اور اتوار کے دن بطورِ خاص روزہ رہتے تھے اور فرماتے کہ:

¹⁹ - الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۵۱ حدیث نمبر

۲۷۲۳: المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري

النیسابوری الحقیق : الناشر : دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة —

بیروت الطبعہ : عدد الأجزاء : ثمانیة أجزاء في أربع مجلدات)

²⁰ - الجامع الصحيح سنن الترمذی ج ۳ ص ۳۶۱ حدیث نمبر: ۵۳: المؤلف :

محمد بن عیسیٰ أبو عیسیٰ الترمذی السلمی الناشر : دار إحياء التراث

العربی — بیروت تحقیق : أحمد محمد شاکر و آخرین عدد الأجزاء : ۵)

إِنَّمَا يوْمًا عِيدٌ لِّلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أَحُبُّ أَنْ أَخْالِفَهُمْ²¹

ترجمہ: یہ دونوں دن مشرکوں کی عید کے ہیں اس لئے میں
چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔

☆ حضرت شداد بن اوسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«خَالِفُوا الْيَهُودَ فِي أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا حِفَافِهِمْ»²².

ترجمہ: یہود کی مخالفت کرو وہ اپنے جو توں اور خف میں نماز
نہیں پڑھتے۔

☆ حضرت عتبہ بن عویم بن ساعدہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک میں ایک عربی کمان تھی، آپ نے ایک شخص کے ہاتھ میں فارسی کمان دیکھی تو آپ نے فرمایا لعنت ہو، اس طرح کی

²¹ - سنن النسائي الكبرى ج ۲ ص ۱۳۶ حديث رقم ۲۷۶ المؤلف : أحمد بن

شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة

الأولى ، 1411 – 1991 تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد

كسرولي حسن عدد الأجزاء : 6)

²² - سنن أبي داود ج ۱ ص ۲۲۷ حديث رقم ۲۵۲ المؤلف : أبو داود سليمان

بن الأشعث السجستاني الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت عدد الأجزاء

(4 :

²³ کمان لو،

☆ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 لا تَقْطُعُوا الْلَّحْمَ بِالسَّكِينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعْاجِمِ وَأَنْهَسُوهُ
 فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرًا » قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ²⁴.

ترجمہ: گوشت کو چھری سے نہ کاٹو اس لئے کہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے۔

☆ حضرت ابو ریحانہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے کئی باتوں سے منع فرمایا ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ آدمی اپنے کپڑے کے نیچے ریشم لگائے اس لئے کہ یہ عجمیوں کا طرز ہے، یا یہ کہ اپنے موڈھے پر ریشم لگائے اس لئے کہ یہ بھی عجمیوں کا طریقہ ہے۔²⁵

²³ - سنن البیهقی الکبری ج ۱۰ ص ۱۴ حدیث غیر : ۱۹۵۱۹ المؤلف : احمد بن الحسین بن علی بن موسی أبو بکر البیهقی الناشر : مکتبۃ دار الباز - مکة المكرمة ، ۱۴۱۴ – ۱۹۹۴ تحقیق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : ۱۰)

²⁴-سنن أبي داود ج ۳ ص ۳۱۰ حدیث نمبر : ۳۷۸۰ المؤلف : أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الناشر : دار الكتاب العربي — بیروت عدد الأجزاء : ۴)

²⁵ - رواہ ابو داؤد و النسائی، مشکلاۃ کتاب اللباس: (۳۷۶)

☆ حضور ﷺ کو اپنی امت کے تہذیبی اختلاط کا شدید اندریثہ

تھا، ایک موقعہ پر ارشاد فرمایا:

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لتبين سنن من قبلكم شبرا بشر وذراعا بذراع حق لو سلکوا
جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى فمن؟²⁶

ترجمہ: تم اپنے سے پہلے والوں کی پوری طرح پیروی کرو گے
بالشت در بالشت، ہاتھ در ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں
داخل ہوں گے تو ان کی دیکھا دیکھی تم بھی اس بل میں گھس پڑو گے،
لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ﷺ آپ کی مراد پہلے والوں سے
یہود و نصاریٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اور کون؟۔

كتب احادیث میں اس طرح کی بہت سی روایات موجود ہیں جن
میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ تہذیبی اور تمدنی اختلاط سے منع
کیا گیا ہے، قطع نظر اس سے کہ ان میں کون سا حکم کس درجہ کا ہے؟
ان احادیث میں جو بنیادی روح ہے وہ ہے مسلمانوں کی تہذیبی اور سماجی

²⁶ - الجامع الصحيح المختصر ج ۳ ص ۱۲۷۵ حدیث نمبر: ۱۳۲۶۹ المؤلف :

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة
- بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987 تحقيق : د. مصطفى ديب البغا
أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6)

تقطیر کا حکم۔

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب اسلام کو تہذیبی اختلاط گوارہ نہیں تو مذہبی بنیادوں پر مذاکرات کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ حساس مسئلہ ہے۔

سیاسی یا سماجی مسائل پر مذاکرات ہو سکتے ہیں

البته سیاسی یا سماجی بنیادوں پر مختلف اقوام و مذاہب اور جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور کسی خاص معاهدہ پر اتفاق رائے بھی کیا جاسکتا ہے، خواہ دوسری جماعت سخت گیر اور متعصبانہ نظریات ہی کی حامل کیوں نہ ہو، بشرطیکہ مسلمانوں کا قومی تشخص اور ملی وقار مجروح نہ ہو، اور معاهدہ جماعت اس اتفاقی منشور میں ان سخت گیر، اور متعصبانہ نظریات کو خارج کرنے پر آمادہ ہو جو مسلمانوں کے مفادات سے مقصادم ہوں، اور مشترکہ بنیادوں پر اتحاد کے لئے تیار ہو۔۔۔ اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ بنیاد بن سکتی ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَيَّ كَلِمَةٌ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْآية٢٧

ترجمہ: ”اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بنیاد پر جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔“

اس آیت کریمہ میں یہودیوں کو ایک مشترکہ بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ جمع ہونے کی دعوت دی گئی ہے، گو کہ اس آیت میں اہل کتاب کی ترغیب کے لئے چند ایسی بنیادیں بھی ذکر کر دی گئی ہیں جو مذہبی طور پر دونوں میں پہلے سے مشترک ہیں، یہود کے ساتھ اتحاد کی دعوت اس بات کی علامت ہے، سخت گیر اور متشدہ جماعت کے ساتھ مشترکہ بنیادوں پر مذاکرہ و معاہدہ کی گنجائش ہے اس لئے کہ قرآن نے ہی یہود کی عداوت و شدت کا ذکر کر کے ان کی عصبیت و تنگ نظری پر دائیٰ مہر لگادی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَتَجَدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهُودَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا إِلَيْهِ28

ترجمہ: "یقیناً تم کو (عملی زندگی میں) مسلمانوں کے سب سے بد ترین دشمن یہود اور مشرکین ملیں گے۔"

لیکن اس کے باوجود مشترکہ بنیادوں پر ان کو متہد ہونے کی دعوت دی گئی، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے، کہ اگر مسلمانوں پر ایسے حالات آئیں جن میں ملی مفادات کے تحفظ اور وسیع سطح پر امن عالم کے قیام کے لئے سخت گیر عناصر سے مشترکہ بنیادوں پر معاہدہ کی ضرورت پڑے تو اس کی گنجائش ہوگی، اور حالت مغلوبی میں اکثر اس قسم کے

مذکرات اور معاہدات کی ضرورت پڑتی ہے۔

عہد نبوی میں بین الاقوامی اتحاد کے نمونے

اس کی کئی عملی مثالیں خود رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں موجود

ہیں:

بیثاق مدینہ میں یہود کی شمولیت

(۱) تاریخی طور پر اس سلسلے کا سب سے اہم اتحاد جس کو مذکرات کے بعد خود رسول اللہ ﷺ نے قائم فرمایا وہ بھرت مدنیہ کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کا اتحاد ہے، اور اس کے لئے جو دستور مرتب کیا گیا اس میں اکثر ان بنیادوں کو جگہ دی گئی جن پر دونوں فریقوں کا اتفاق ممکن تھا، تاریخِ الكامل، البدایة والنہایة، اور سیرت ابن ہشام وغیرہ میں یہ معاہدہ پوری تفصیل کے ساتھ درج ہے، یہاں بطوط مثال صرف چند مشترکہ بنیادوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن پر بیثاق کی اساس تھی۔

☆ وَإِن يَهُودَ بْنَى عَوْفَ امْتَةً مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

یہود اور مسلمانوں کا ایک اتحاد ہو گا۔

☆ وَ إِن بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَىٰ مَنْ حَارَبَ هَذِهِ

الصحیفة

جو شخص اس بیثاق کی مخالفت کرے گا اس کے خلاف دونوں

مل کر کارروائی کریں گے۔

☆ و ان بينهم النصح والنصيحة والبردون الاثم
ان کے درمیان باہم ہمدردی اور خیر خواہی اور نیکی کا رشتہ ہو گا
کسی ظلم و گناہ کا نہیں۔

☆ و ان النصر للمظلوم
مظلوم کی مدد کی جائے گی۔

☆ و ان بينهم النصر على من دهم بثرب
مدينه منورہ پر جو حملہ کرے گا اس کے خلاف دونوں مل کر
کارروائی کریں گے۔

☆ و اذا دعوا الى صلح يصا لحونه ويلبسونه فانهم
يصالحونه و يلبسونه و انهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه
لهم على المؤمنين الامن حارب في الدين -

اگر یہود کو کسی ایسے معاہدہ کی پیش کش کی جائے جس پر اتفاق
ممکن ہو تو وہ اس پیش کش کو قبول کریں گے اور اس طرح کے
معاہدات میں جو طے ہو گا وہ مسلمانوں پر بھی نافذ ہو گا۔ الایہ کہ خلافِ
دین کوئی چیز طے کر لی جائے (یعنی مشترکہ بنیاد کے بجائے کوئی انتیازی
بنیاد اختیار کر لی جائے تو معاہدہ کا اطلاق اس پر نہیں ہو گا) وغیرہ تقریباً
۷۲ دفعات ہیں جن کا تذکرہ میثاق مدینہ میں کیا گیا ہے،²⁹

²⁹ - الروض الأنف ج ۲ ص ۳۷۵ المؤلف : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد

البته اس اتحاد میں مسلمانوں کی حیثیت ایک بالا دست قوت کی تھی اور متعدد اختلافی معاملات میں اللہ اور رسول کے فیصلہ کو آخری فیصلہ قرار دیا گیا تھا، اس لئے کہ یہ اتحاد مدنی ڈور میں قائم کیا گیا تھا اور مدنی ڈور مسلمانوں کے غلبہ کا ڈور ہے، لیکن فی الجملہ اس سے مشترکہ انسانی، سماجی اور سیاسی بنیادوں پر غیر مسلموں کے ساتھ مذکرات اور اتحاد کا جواز ملتا ہے۔

حلف الفضول

اسی قسم کا ایک بین القبائلی اتحاد (جس کو آج ہم بین الاقوامی یا بین المذاہبی اتحاد بھی کہہ سکتے ہیں، اس لئے کہ اس وقت ہر قبیلہ اپنے سیاسی اور اقتصادی معاملات میں خود مختار تھا، اور ہر ایک کے مذہبی تصورات دوسرے سے مختلف تھے) بعثتِ نبوی سے تقریباً بیس (۲۰) سال قبل جنگ فمار کے چار ماہ بعد کمہ میں ہوا تھا، جب حضور ﷺ کی عمر مبارک بیس (۲۰) سال تھی، آپ اس معاهدہ میں شعوری طور پر شریک تھے۔ اس کو "حلف"

الله بن أحمد السهيلي (المتوفى : 581ھ)، السيرة النبوية ج ۲ ص ۳۲۲
 المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى : 774ھ)، السيرة النبوية ج ۱ ص ۵۰۳ المؤلف : أبو محمد عبد الملك بن هشام البصري (المتوفى : 213ھ)، عيون الأثرج ۱ ص ۲۶۱ المؤلف : محمد بن عبد الله بن يحيى بن سيد الناس (المتوفى : 734ھ)

الفضل” کہا جاتا ہے، ایک مخصوص واقعہ کے تناظر میں امن و سلامتی، انسانی ہمدردی، مظلوموں کی مدد، ظالموں کا مقابلہ اور اس جیسی بعض مشترکہ سماجی اور سیاسی مسائل پر بنو ہاشم، زہرہ، یتم بن مررہ، وغیرہ قبائل کے درمیان یہ اتحاد قائم ہوا، جو تاریخ اسلامی میں کافی معروف ہے،³⁰ ہمارے لئے زیر بحث مسئلہ میں اس اتحاد کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد اصل اہمیت رکھتا ہے، جو حضرت طلحہ بن عبد اللہ بن عوفؓ سے مروی ہے۔

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي
به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت «³¹

³⁰ - تفصیل کے لئے دیکھا جائے البداية والنهاية: ج ۲، ص ۳۵۵، باب شہود النبی ﷺ حفظ الفضل، البدء والتاريخ ج ۱ ص ۲۲۶ المؤلف : المطہر بن طاہر المقدسی (المتوفی : نحو ۳۵۵ھـ) الكامل فی التاریخ ج ۱ ص ۲۵۱ المؤلف : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ، المعروف بابن الأثير (المتوفی : ۶۳۰ھـ)، الأوائل ج ۱ ص ۱۳ المؤلف : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهيل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكريي (المتوفی : نحو ۳۹۵ھـ)

³¹ - سنن البیهقی الکبری ج ۲ ص ۳۶۷ حدیث نمبر : ۱۲۸۵۹ المؤلف : أحمد بن الحسین بن علی بن موسی أبو بکر البیهقی الناشر : مکتبۃ دار الباز - مکة المکرمة ، ۱۴۱۴ – ۱۹۹۴ تحقیق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : ۱۰، تهذیب الآثار (الجزء المفقود) ج ۱ ص ۱۷ أبو جعفر محمد بن جریر

ترجمہ: حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں عبد اللہ بن جدعان کے مکان پر اس معاہدہ میں شریک تھا، یہ معاہدہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اگر مجھے آج عہدِ اسلامی میں بھی اس قسم کے کسی معاہدہ کی دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کروں گا۔

یہ عہدِ اسلامی سے قبل کا معاہدہ تھا اور ظاہر ہے کہ اس میں شریک قبائل مسلمان نہیں تھے، اور حضور ﷺ کا اس وقت نو عمری مگر مکمل شعور کا دور تھا، اس معاہدہ میں کسی معاہد فریق کی بالا دستی کا بھی سوال نہیں اٹھتا تھا، ایسے معاہدہ اور ایسے اتحاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس قسم کے اتحاد کی دعوت مجھے آج بھی دی جائے تو میں بخوبی اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان ملیٰ شخص اور مغادرات کے تحفظ کی شرط کے ساتھ قیام امن، بقاء باہم اور بدگمانیوں کے خاتمه وغیرہ نیک مقاصد کے لئے دیگر اہل مذاہب سے مشترکہ بنیادوں پر (جن میں کوئی بات خلافِ شریعت نہ ہو) مذکرات اور معاہدات کر سکتے ہیں بالخصوص اس

الطبری سنۃ الولادة 224ھ / سنۃ الوفاة 310ھ - تحقیق علی رضا بن عبد اللہ بن علی رضا الناشر دار المأمون للتراث سنۃ النشر 1416ھ -
1995م مکان النشر دمشق / سوریا عدد الأجزاء 1)

وقت جب مسلمان حالت مغلوبی میں ہوں، اور اس طرح کے معاهدات سے ان کو قومی تحفظ اور دعوت دین وغیرہ کے موقع زیادہ فراہم ہو سکتے ہوں۔

حلف خزانعہ کی تجدید

اسی طرح کا ایک معاهدہ عہدِ جاہلیت میں بنو عبد المطلب اور خزانعہ کے درمیان ہوا تھا، جس کو حلفِ خزانعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تاریخ طبری اور بغدادی وغیرہ میں واقعہ کی پوری تفصیل موجود ہے، اس معاهدہ کی اساس باہم نصرت و محبت اور امن و سلامتی پر تھی، اس کی یہ دفعہ بطورِ خاص بہت اہم تھی۔

وَأَنْ عَبْدُ الْمَطْلَبِ وَوْلَدُهُ وَمَنْ مَعَهُمْ وَرِجَالُ خَزَاعَةِ
مَتَّكِفُونَ مُتَظَاهِرُونَ مُتَعَاوِنُونَ، فَعَلَى عَبْدِ الْمَطْلَبِ النَّصْرَةِ لَهُمْ بَنْ
تَابِعُهُ عَلَى كُلِّ طَالِبٍ، وَعَلَى خَزَاعَةِ النَّصْرَةِ لِعَبْدِ الْمَطْلَبِ وَوْلَدِهِ
وَمَنْ مَعَهُمْ عَلَى جَمِيعِ الْعَرَبِ فِي شَرْقٍ أَوْ غَربٍ أَوْ حَزْنٍ أَوْ سَهْلٍ،
وَجَعَلُوا اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ كَفِيلًا، وَكَفِيَ بِاللَّهِ جَمِيلًا³²

ترجمہ: "عبد المطلب اور ان کی اولاد اور ان کے رفقاء اور قبیله خزانعہ کے لوگ باہم مساوی اور ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، عبد المطلب پر ان کی مدد ہر اس شخص کے مقابلے میں لازم ہوگی جن کے

³² - المنق في أخبار قريش ج ۱ ص ۲۱ المؤلف : أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية البغدادي (المتوفى : 245هـ)

لئے ان کو مدد کی ضرورت ہو اس طرح خزانعہ پر عبد المطلب اور ان کی اولاد اور رفقاء کی مدد لازم ہو گی پورے عرب کے مقابلے میں، خواہ وہ مشرق و مغرب میں سخت زمین یا نرم زمین کہیں بھی ہوں، اور اس پر اللہ کو کفیل بناتے ہیں اور اس سے بہتر کوئی ضمانت نہیں۔

اس معاهدہ کا علم رسول اللہ ﷺ کو تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر قبیلہ خزانعہ کے لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور معاهدہ نامہ کی ایک کالپی حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کی، حضرت اُبی بن کعبؓ نے اس کا مضمون پڑھ کر سنایا، حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا یہ معاهدہ برقرار رہے گا، اسلام عہد جاہلیت کے معاهدوں کو منسوخ نہیں کرتا، آپ نے اس معاهدہ کی تجدید فرمائی اور اس میں ایک دفعہ کا اضافہ فرمایا۔

ان لا یعنی ظالمًا و انما ينصر مظلوما
کہ ظالم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی بلکہ مدد صرف مظلوم کی جائے گی۔³³

اہمیت محض معاهدہ کی نہیں ہے، عہد جاہلیت میں اس طرح کے قبائلی معاهدے ہوتے رہتے تھے، اہمیت اس کی ہے کہ حضور ﷺ نے نیک مقاصد پر مبنی اس معاهدہ کی توثیق فرمائی، آپ کی توثیق کے بعد یہ

³³ - تاریخ طبری: ص ۱۰۸۳، الحیقوی: ج ۱، ص ۲۷۸، ۲۷۹، محوالہ الوثائق السياسية

ڈاکٹر محمد حمید اللہ حیدر آبادی: ص ۲۷۳-۲۷۴

شریعت کا حصہ بن گیا۔

غیر مسلموں سے دفاعی اتحاد

حضور ﷺ نے بعض جنگی مواقع پر غیر مسلموں سے جو دفاعی اتحاد قائم فرمائے، مثلاً بنو قریظہ کے مقابلے میں یہود بنو قینقاع سے فوجی مدد لی، صفوان بن امیہ نے ختنین و طائف میں مسلمانوں کے ساتھ ملکر جنگ کی جبکہ وہ مشرق تھا، اس کو بھی سیاسی مذکرات کے لئے ایک نظر بنا�ا جاسکتا ہے، اگرچہ کہ بعض موقع پر آپ نے مشرکین سے فوجی مدد لینے سے انکار بھی فرمایا ہے³⁴ آپ ﷺ کے ان دونوں طرح کے طرزِ عمل سے جمہور فقهاء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کفار سے فوجی اتحاد مشروط طور پر قائم کیا جاسکتا ہے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ملی وقار محروح نہ ہو، تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں،³⁵

³⁴ - السنن الکبری و فی ذیلہ الجوہر النقی ج ۹ ص ۳۶ حديث نمبر: ۱۸۳۳۲

المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي مؤلف الجوہر النقی : علاء الدين علي بن عثمان الماردینی الشہیر بابن الترکمانی الحقیق : الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حیدر آباد الطبعة : الأولى – ۱۳۴۴ هـ عدد الأجزاء : 10

³⁵ - شرح السیر: ج ۳، ص ۱۸۶، رد المحتار: ج ۲، ص ۲۲۲، کتاب الام: ج

(۹۰-۸۹، ص ۳)

اہل مذاہب کی قربت ممنوعہ موالات کے دائرے میں داخل نہ ہو

البتہ اس طرح کے مذاکرات میں اس امر کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ سماجی یا سیاسی بنیادوں پر ہماری قربت ممنوعہ موالات کے دائرے میں داخل نہ ہو، اس لئے کہ پھر امت کی مذہبی اور تہذیبی زندگی کا سوال پیدا ہو جائے گا، یہ بحث بہت معروف ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں سے گھرے دوستانہ تعلقات سے روکا گیا ہے، جس کو موالات کہتے ہیں، البتہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں سے صرف عقیدہ کا اختلاف رکھتے ہوں، حرbi خیالات نہ رکھتے ہوں ان کے ساتھ محدود سماجی تعلقات اور خیر خواہانہ مراسم رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، جس کو مداراہ یا مواساة کہتے ہیں، قرآن کریم میں ان دونوں رخوں پر واضح ہدایات موجود ہیں :

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَنْقُوا مِنْهُمْ ثُقَّةً³⁶

ترجمہ: ایمان والے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کچھ بھی تعلق نہ ہو گا، مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ چاہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلَيَاءَ إِنِ اسْتَحْبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

³⁶ - آل عمران: 28)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے باپ اور بھائیوں کو اگر وہ ایمان کے برخلاف کفر سے محبت رکھیں اپنا دوست نہ بناؤ اور تم میں سے جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے تو وہی حد سے گذرنے والے ہوں گے۔

ان آیات کو ان کے نزول کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ حکم جنگ اور کشیدگی کے حالات کے لئے ہے، اور ان غیر مسلموں کے لئے ہے جو اسلام اور مسلمانوں سے مختلف محاذوں پر مصروف پیکار ہوں، قرآن کریم کی بعض آیات میں مختلف حالات اور دشمن کے سازشی منصوبوں سے بھی متنبہ کیا گیا ہے، مثلاً:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ
يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ
مِنْ عِنْدِهِ فَيُصِيبُهُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52)³⁸

ترجمہ: اے ایمان والو! یہودیوں اور نصرانیوں کو رفیق نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان

³⁷ - توبہ: ۲۳)

³⁸ - مائدہ: ۵۱، ۵۲)

سے رفاقت کرے وہ انہی میں ہے، اللہ بے انصاف لوگوں کو راہ نہیں دیتا، اب تو ان کو دیکھتا ہے جن کے دل میں بیماری ہے، کہ وہ دوڑ کر ان سے جا ملتے ہیں کہتے ہیں ہم کو ڈر ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آجائے، تو اللہ شاید جلد (مسلمانوں کی) فتح یا (ان کی کامیابی کی) کوئی اور بات اپنے پاس سے بھیجے تو پھر وہ اپنے دل کی چھپی بات پر پچھلانے لگیں، (ترجمہ علامہ سید سلیمان ندوی³⁹)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخِنُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُنُّوا
وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلَيَاءٍ وَاتَّقُوا اللهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ³⁹

ترجمہ: اے ایمان والو! اہل کتاب اور کفار میں سے ان کی جو تمہارے دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں اپنا رفیق نہ بناؤ اور خدا سے ڈرو اگر یقین رکھتے ہو۔

قرآن پاک میں اس طرح کی متعدد آیات موجود ہیں۔ جن میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اور حدود پر روشنی ڈالی گئی ہے، ایک آیت اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ واضح ہے۔

لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّهُمْ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⁴⁰

ترجمہ: خدا تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے مذہب میں لڑائی نہیں کرتے، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، خدا انصاف والوں کو پیار کرتا ہے، وہ صرف ایسے لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے سے منع کرتا ہے، جو تم سے تمہارے مذہب کے بارے میں جنگ کریں، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالیں اور تمہارے نکلنے پر ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، جو ان سے دوستی کا دم بھریں گے وہی بے انصاف ہوں گے۔

مسلمانوں کے اس اخلاق اور رہاداری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گا، کہ باہمی عداؤت میں کمی پیدا ہو گی، قرآن اس نتیجہ کی طرف اشارہ کرتا ہے:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً
وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⁴¹

ترجمہ: اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کر دے اور اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ دیگر مذاہب کی

⁴⁰ - المُتَّحَنَةُ : ٨ ، ٩)

⁴¹ - المُتَّحَنَةُ : ٧)

کتابوں کا حوالہ اور ان سے استفادہ

(۲) مختلف مذاہب کے درمیان بہت سی تعلیمات میں اشتراک پایا جاتا ہے، اصول سیاست، اصول اخلاق، سماجی قواعد بلکہ بہت سے مذہبی تصورات میں بھی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، خاص طور پر آسمانی مذاہب میں اس طرح کی نظیریں بہت ملتی ہیں، مذاکرات کے درمیان کسی نقطہ اتفاق تک پہونچنے، کسی مشترک کہ کاز کو قوت پہونچانے کے لئے، یا تمام جنت کے لئے دیگر مذاہب کی کتابوں کے حوالے دیئے جاسکتے ہیں اور ان سے محدود استفادہ بھی کیا جاسکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ بعض دفعہ فرقہ ثانی کے لئے یہ زیادہ مؤثر اور قبل قبول ثابت ہوتا ہے، خود قرآن کریم نے مختلف مناسبتوں سے کئی مقامات پر دیگر مذاہب کی کتابوں اور ان کی تعلیمات کے حوالے دیئے ہیں، جن کا مقصد کہیں عقیدہ و نظریہ کی اصلاح ہے تو کہیں دیگر اہل مذاہب کے بعد کو کم کرنا ہے، مثلاً:

قرآن کریم میں دیگر مذہبی کتابوں اور شخصیات کے حوالے
☆ قرآن مجید زینی و راشت اور خلافت و حکومت کو صالحین کا حق قرار
دیتا ہے، بد کرداری یا ظلم کے ساتھ زمین پر اچھی حکمرانی قائم نہیں ہو سکتی، قرآن نے یہ بات اہل کتاب کی مشہور کتابوں تورات اور زبور کے حوالے سے بیان کی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد پر نازل ہوئی تھیں، جب کہ یہ بات بغیر کسی حوالہ کے بھی کہی جاسکتی تھی، لیکن پھر یہ معنویت پیدا نہ ہوتی کہ یہ تمام مذاہب

کامشتر کہ نظر یہ ہے، صرف قرآن کا نہیں:

لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هَذَا لَبَابًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ⁴²

ترجمہ: ہم نے زبور میں تورات کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث
میرے نیک بندے ہونگے، بیشک اس میں نصحت ہے عبادت گزار لوگوں کے
لئے۔

تفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں الذکر سے مراد تورات ہے
بعض حضرات نے الزبور کو لغوی معنی میں لیتے ہوئے تمام سچی آسمانی کتابوں
تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو اس کام مصدق اقترا دیا ہے،⁴³
ایک وسرے مقام پر قرآن نے صرف حضرت موسیٰؐ کے حوالے سے
یہ بات بیان کی ہے:

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ

(106) - الانبیاء:⁴²

43 - شرح مشکل الآثار ج ۱۲ ص ۳۰۳ حدیث نمبر: ۵۶۳۳ المؤلف : أبو جعفر
أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري
المعروف بالطحاوی (الموف : 321ھ) تحقیق : شعیب الأرنؤوط الناشر :
مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى - 1415 هـ ، 1494 م عدد الأجزاء :
16 (15 وجزء للفهارس) ، الدر المنشور في التأویل بالتأویل ج ۷ ص ۱۱۰
المؤلف : عبد الرحمن بن أبو بکر، جلال الدین السیوطی (الموف : 911ھ)

يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ⁴⁴

ترجمہ: حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدماً گلو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنادیتا ہے۔
اس طرح قرآن پاک نے کئی مذہبی کتابوں اور شخصیات کے حوالے دے کر اس کو ایک متفقہ نظریہ قرار دیا،۔۔۔

☆ رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت ایک واضح صداقت ہے، جس کے لئے بے شمار شواہد و برائیں موجود ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس کو ایک بین الاقوامی عقیدہ اور مذاہب عالم کے متفقہ نظریہ کے طور پر پیش کیا ہے، اس کے لئے قرآن نے مختلف مذہبی شخصیات اور کتابوں کے حوالے دیئے ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ تمام سابقہ رسولوں اور آسمانی مذاہب کو حضور ﷺ کی نبوت کبریٰ اور آخری زمانے میں آپ کی آمد کا علم تھا، اور اپنے اپنے دور میں انہوں نے اس حقیقت کا اعلان بھی کیا، دنیا کو بشارت بھی سنائی، اور آپ کا اجمالی یا تفصیلی تعارف بھی پیش کیا۔⁴⁵

[الأعراف : ١٢٨]-⁴⁴

⁴⁵- تفسیر القرآن العظیم ج ۸ ص ۱۱۱ المؤلف : أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثير القرشی الدمشقی (المتوفی : ۷۷۴ھ) المحقق : سامی بن محمد سلامة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع الطبعة : الثانية ۱۴۲۰ھ - ۱۹۹۹ م عدد الأجزاء : 8)

چنانچہ اس بات سے حضور ﷺ کے زمانے کے انصاف پسند اور صاحب علم اہل کتاب بھی خوب واقف تھے، اور اہل کمہ میں ان پیشگوئیوں کی بازگشت موجود تھی، خود صحابہ میں کئی لوگ جو تورات و نجیل کے عالم تھے مثلاً حضرت عبد اللہ بن سلام اور حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص وغیرہ وہ بھی اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے⁴⁶

چنانچہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ارشاد ہے :

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرِيمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ⁴⁷

⁴⁶ - الجامع الصحيح المختصر ج ۲ ص ۷۴۷ حدیث نمبر: ۲۰۱۸: المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثیر ، اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة ، ۱۴۰۷ - ۱۹۸۷ تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : ۶ مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا - مسنن الإمام أحمد بن حنبل ج ۳۸ ص ۳۷ حدیث نمبر: ۲۳۲۹۲ المؤلف : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ۲۴۱ھ) الخرق : شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد ، وآخرون إشراف : د عبد الله بن عبد الحسن التركي الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، ۱۴۲۱ هـ - ۲۰۰۱ م)

(6)- الصف:

ترجمہ: اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا: اے بن اسرائیل! میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، سابقہ کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک ایسے رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہو گا، پھر جب ان کے پاس وہ رسول آگیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ ایک دوسرے مقام پر تورات و نجیل کے حوالے سے رسول اللہ ﷺ کی صفات و خدمات پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمَّيَّ الَّذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁴⁸

ترجمہ: جو لوگ رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں وہ ان کو اپنے پاس تورات اور نجیل میں صاف تحریر شدہ پاتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں گے، برا یوں سے روکیں گے، پاک چیزوں کو حلال کریں گے، گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے، ان کے بوجھ اور سابقہ پابندیوں کو ختم کریں گے، پس جو لوگ ایمان لائیں، ان کی حمایت و نصرت کریں، اور ان پر نازل شدہ روشنی کی پیروی کریں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بلکہ حضور ﷺ کے صحابہ کی صفات

⁴⁸ - الاعراف: 157)

وامتیازات کا تذکرہ بھی پچھلی کتابوں میں موجود ہے، علامہ ابن کثیر⁴⁹ نے امام مالک کے بلاغات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب صحابہ نے شام کے علاقوں کو فتح کیا، اور نصرانیوں نے ان کی زیارت کی، تو بے ساختہ بول پڑے کہ یہ ہمارے حواریں سے بہتر لوگ ہیں، اس لئے کہ ان صحابہ کی صفات پچھلی کتابوں میں موجود تھیں، انہوں نے ان کو اسی آئینے میں دیکھا۔⁴⁹

دیکھئے قرآن اس حوالے سے کہتا ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجَّداً يَتَّغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنجِيلِ⁵⁰

ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے صحابہ کافروں پر سخت اور آپ میں نرم ہیں، آپ ان کو رکوع و سجدہ میں مصروف پائیں گے، وہ اللہ سے فضل اور رضا کے طلبگار رہتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدہ کی نشانیاں چمک رہی ہیں، ان کی مثلیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔

⁴⁹ - تفسیر القرآن العظیم ج ۷ ص ۱۳۶۲ المؤلف : أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی (المتوفی : ۷۷۴ھ) الحقق : سامي بن محمد سلامہ الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع الطبعة : الثانية ۱۴۲۰ھ - ۱۹۹۹ م عدد الأجزاء : 8)

⁵⁰ - الفتح (۲۹ :)

اسی لئے اہل کتاب کی طرف روئے تھا طب کر کے بار بار کہا گیا کہ اگر تم قرآن پر نہیں، اپنی کتابوں پر بھی یقین رکھتے تم محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت پر ضرور ایمان لے آتے، لیکن جب اہل تورات تو اور اہل انجیل کو اپنی زندگی میں جاری نہ کر سکے تو ان کے عدل اور قبول حق کی کیا امید کی جاسکتی ہے:

وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ⁵¹

ترجمہ: چاہئے کہ اہل انجیل میں نازل شدہ حکم الہی کے مطابق فیصلہ کریں، جو اللہ کے نازل شدہ حکم کو فیصلہ کن نہیں مانتا وہ فاسق ہے ایک جگہ کہا گیا:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابَ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ } الآية 52

ترجمہ: آپ کہدیجئے: اے اہل کتاب تم کسی دین پر قائم نہیں جب تک کہ تم تورات و انجیل اور اپنے رب کے نازل کردہ احکام کو قائم نہ کرو۔
☆ بلکہ قرآن کریم نے سابقہ کتابوں کے حوالے سے بعض تعلیمات کو نہ ہب اسلام کا حصہ بھی قرار دیا ہے، مثلاً تغیریات اسلامی میں قانون قصاص

⁵¹ - المائدة: 47

⁵² - المائدة: 68

تورات کے حوالے سے لیا گیا ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الْآتِيَةِ
--- (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسَّنَنَ بِالسَّنَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ⁵³

ترجمہ: ہم نے تورات نازل کی، جس میں ہدایت و نور ہے، اس سے انیا
ء فیصلے کرتے رہے ہیں۔۔۔ اور ہم نے اس میں بنی اسرائیل پر فرض کیا کہ
جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ
دانٹ، اور زخموں کا قصاص لیا جائے گا، جو صدقہ کرے اس کے لئے کفارہ ہو گا
، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل نہیں کرے گا وہ فاسق قرار پائے گا،
☆ قانون جزا و سزا میں انسان کی دینی جدوجہد اور جہاد فی سبیل اللہ
وغیرہ کے بدے خدا کی طرف سے وعدہ جنت ہے، اس پر تورات، انجیل اور
قرآن سب متفق ہیں، قرآن میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ
الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي
الْتُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا

بِيَعْكُمُ الَّذِي بَأَيْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ⁵⁴

ترجمہ: بے شک اللہ پاک نے مومنوں کی جان و مال کو جنت کے بد لے خرید لیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جان لیں اور جان دیں، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرے گا تو اسے اس کے عہد کی بشارت ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

☆ اسی طرح قانون جزا و سزا ہی کے تحت حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیمؑ کے صحیفوں کے حوالے سے قرآن کریم نے ان شقوں کو جگہ دی ہے کہ: ☆ کسی کے جرم کا بار دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا☆ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے☆ انسان کے آگے اس کا نتیجہ عمل ضرور آئے گا،☆ اور اس کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا، وغیرہ:

آمْ لَمْ يُنَبِّأْمَا فِي صُحْفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى
 (37) أَلَا تَنْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى
 (41)⁵⁵

ترجمہ: کیا موسیٰ اور ابراہیم جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا کے صحیفوں میں یہ خبر نہیں دی گئی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو وہی ملے گا جو

١١١: - التوبۃ⁵⁴

(٢٣٦: - النجم⁵⁵)

اس نے کیا ہو گا، اور اپنے عمل کے نتیجے کو یقیناً دیکھے گا، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

☆ قرآن کی سورہ اعلیٰ میں خلقت انسانی کے مدارج و مصالح، قدرت خداوندی کے مظاہر، انسان کے نفع و ضرر کے اصول اور اس کی طبعی کمزوریوں کی نشاندہی وغیرہ مضامین بیان کئے گئے ہیں، پھر ان سب کو حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیؑ کے صحیفوں کی طرف محول کر دیا گیا ہے، یہ بات خود سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمائی⁵⁶

إِنَّ هَذَا لَفْيَ الصُّحْفِ الْأُولَى (18) صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
(العلیٰ: 19)

ترجمہ: بلاشبہ یہ تمام مضامین سابقہ صحیفوں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیؑ کے صحیفوں میں موجود ہیں۔

یہ تو کلام الہی سے چند مثالیں پیش کی گئیں، اب کلام نبوت سے بھی چند نمونے ملاحظہ فرمائیں:

⁵⁶- وَكَيْهَةٌ: سنن النسائي الكبرى ج ٦ ص ٥١٣ حديث رقم ١١٢٢٨: المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ، ١٤١١ - ١٩٩١ تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : ٦) :

کلام نبوت میں دیگر مذہبی کتابوں کے حوالے

☆ زنا کی سزا میں اسلام کا جو قانون رجم ہے، یہ خود تورات میں موجود ہے، اس کا علم اس وقت ہوا جب نبی کریم ﷺ کی خدمت عالیہ میں یہود کی طرف سے ایک مقدمہ زنا پیش ہوا اور آپ نے تورات کے حوالے سے قانون رجم کی بابت ان سے دریافت فرمایا، انہوں نے ازراہ شرارت توریت میں اس قانون کا انکار کیا، لیکن وہ اپنے اس انکار کو ثابت نہ کر سکے اور حضرت عبد اللہ بن سلامؓ نے ان کی علمی خیانت کا پردہ فاش کر دیا، تفصیل کتب حدیث میں موجود ہے⁵⁷

☆ ایک بار اہل کتاب کا ایک عالم دربار رسالت میں حاضر ہوا اور اپنی مذہبی کتابوں کی روشنی میں اس نے روز قیامت کی کچھ منظر کشی کی: کہ اللہ پاک ایک انگلی پر آسمانوں کو، ایک انگلی پر زمینوں کو، ایک انگلی پر درختوں کو، ایک انگلی پر پانی وغیرہ کو اور ایک انگلی پر ساری خلائق کو اٹھائے گا اور کہے گا کہ میں مالک ہوں، یہ سنکر حضور ﷺ اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کے دندان مبارک

⁵⁷ - الجامع الصحيح المختصر ج ۳ ص ۱۳۳۰ حدیث نمبر: ۳۲۳۶ المؤلف

: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثير ،
اليمامه - بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987 تحقيق : د. مصطفى
ديب البغـا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد
الأجزاء : 6 مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديـب الـبغـا)

نظر آنے لگے، اس لئے کہ یہ اسلامی تعلیمات سے بہت ہم آہنگ تھی، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حِقْ قَدْرُهِ وَالْأَرْضَ جِيَعًا قَبْضَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَاتٍ بِيَمِينِهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَشَرِّكُونَ⁵⁸

ترجمہ: انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کا حق تھا، اور ساری زمین
قيامت کے دن اس کی مٹھی میں ہو گی اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے
ہونگے، اللہ کی ذات ان کی شرکیات سے پاک ہے،⁵⁹

☆ حضرت عقبی بن عامر رضوی رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ
قرآن میں تین سورتیں ایسی ہیں جو تورات و نجیل میں بھی موجود تھیں، قل
حول اللہ، اور معوذ تین، حضور ﷺ نے روزانہ رات میں پڑھنے کی ان کو تلقین
فرمائی⁶⁰

⁵⁸ - الزمر : ۲۷

⁵⁹ - (الجامع الصحيح المختصر ج ۲ ص ۱۸۱۲ حدیث نمبر ۳۵۳۳ المؤلف :
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة
- بيروت الطبعة الثالثة ، ۱۹۸۷ - ۱۴۰۷ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا
أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : ۶
مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا)

⁶⁰ - مسنـد الإمام أـحمد بن حـنـبل ج ۲ ص ۱۳۸ حدـيـث نـمبر: ۱۷۳۷۲ المؤـلف :
أـحمد بن حـنـبل أبو عبد الله الشـيـبـانـي النـاـشـر: مؤـسـسـة قـرـطـبة - القـاهـرـة عـدـد

کئی صحابہ تورات کے عالم تھے

☆ صحابہ میں کئی حضرات تورات پڑھنا جانتے تھے اور وہ اس کا مطالعہ بھی کرتے تھے جس کی خبر حضور ﷺ کو تھی، لیکن آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا، دراصل تہذیب اختلاط اور مصدر قانون سمجھ لئے جانے کے اندیشہ سے آپ نے ابتداء میں دیگر مذہبی کتابوں کے مطالعہ سے سخت ممانعت فرمائی تھی، لیکن جب لوگوں کے قلب میں راخن ہو گیا کہ مصدر قانون صرف قرآن اور رسول اللہ ﷺ کی شخصیت ہے تو محض علمی اضافہ یا اتمام جحت کے لئے ان کو گاہ بگاہ پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمادی،

☆ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے سے قبل ہاتھ دھونا سب برکت ہے، میں نے اس کا تذکرہ سرکار دو عالم ﷺ سے کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد دھونا سب برکت ہے،⁶¹

الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهما

⁶¹ - الجامع الصحيح سنن الترمذی ج ۲ ص ۲۸۱ حدیث نمبر: ۱۸۳۶ المؤلف : محمد بن عیسیٰ أبو عیسیٰ الترمذی السلمی الناشر : دار إحياء التراث العربي - بیروت تحقیق : أحمد محمد شاکر و آخرین عدد الأجزاء : ۵ الأحاديث مذيلة بأحكام الألبانی علیہا ، سنن أبي داود ج ۳ ص ۳۰۵ حدیث نمبر: ۳۶۳ المؤلف : أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستانی الناشر : دار

☆ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ بھی تورات کے بڑے عالم تھے ، اور اس کا مطالعہ کرتے تھے ، ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی ایک انگلی میں گھی اور دوسری میں شہد ہے اور وہ دونوں کو اپنی زبان سے چاٹ رہے ہیں ، انہوں نے اس خواب کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ سے کیا ، آپؐ نے فرمایا تم قرآن اور تورات دونوں کتابیں پڑھتے ہو،⁶²

☆ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ اس صلاحیت کا علم دوسرے لوگوں کو بھی تھا ، بعض حضرات تورات کے حوالے سے کچھ سمجھنا چاہتے تو ان سے رجوع کرتے تھے ، مثلاً مشہور تابعی حضرت عطاء بن يسارؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے ملا اور عرض کیا کہ آپؐ نبی ﷺ کے شماکل تورات کے حوالے سے بیان فرمائیں ، چنانچہ انہوں نے بیان فرمائے ، تفصیل کتب حدیث میں موجود ہے۔۔۔⁶³

الكتاب العربي - بيروت عدد الأجزاء : 4 مصدر الكتاب : وزارة الأوقاف المصرية وأشاروا إلى جمعية المكتبة الإسلامية [ملاحظات بخصوص الكتاب]

: ٦٢ - مسنند الإمام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٢٢٢ حدیث نمبر: ٢٠٢٧ المؤلف :
أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة عدد
الأجزاء : ٦ الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليه)

: ٦٣ - الجامع الصحيح المختصر ج ٢ ص ٧٤٧ حدیث نمبر: ٢٠١٨ المؤلف
: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفري الناشر : دار ابن كثير ،

بلکہ ان کی شہرت اس معاملے میں اتنی زیادہ تھی کہ بعض لوگوں کو مسئلہ کی تحقیق کے وقت یہ وضاحت کرنی پڑتی تھی کہ آپ مسموعات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مسئلہ بتائیں تورات کے حوالے سے نہیں، ابو سعد نے اسی طرح کا ایک واقعہ نقل کیا ہے جس میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں:

عن أبي سعد قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو فقال إنما
أسألك عما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسائلك
عن التوراة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
ال المسلم من سلم المسلمين من لسانه و يده تعليق شعيب الأرنؤوط :
مرفوعه صحيح⁶⁴

اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987 تحقيق : د. مصطفى

ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد

الأجزاء : 6 مع الكتاب : تعليق د. مصطفى دياب البغا)

⁶⁴ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٢٠٢ حدیث غیر : ٦٨٨٩

المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة -

القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها)

☆ ان کے علاوہ حضرت عبد اللہ بن سلام اور حضرت کعب احبار وغیرہ
بھی توریت و نجیل کے علماء میں تھے، اور کئی مسائل پر ان کے درمیان مذاکرات
بھی ہوتے تھے:

ایک بار حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی کریم ﷺ کے حوالے سے یہ
حدیث سنائی کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت مفقود ہو گئی تھی، جس کا پتہ نہیں چل
سکا، میری رائے میں یہ چوہے وہی مسخ شدہ جماعت ہے، کیونکہ یہ چوہے اونٹ کا
دودھ نہیں پیتے، مگر بکری کا دودھ پیتے ہیں، حضرت کعبؓ یہ سن کر حیران رہ گئے
اور بار بار دریافت کرتے رہے کہ کیا آپ نے نبی ﷺ سے یہ بات سنی ہے
؟ میں نے کہا کہ ہاں! تو کیا میں تورات پڑھتا ہوں؟ (کہ تورات کے حوالے سے
بولوں گا) ⁶⁵

☆ حضرت کعب احبارؓ بیان کرتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ
کے نبی حضرت داؤدؑ نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:
اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي
دنياي التي جعلت فيها معاشى اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك

⁶⁵ - الجامع الصحيح المختصر ج ۳ ص ۱۲۰۳ حدیث غیر: ۳۱۲۹
المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفري الناشر : دار ابن كثير
'، الیمامۃ - بیروت الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987 تحقیق : د. مصطفی دیب البغا
الأجزاء : 6 مع الكتاب : تعلیق د. مصطفی دیب البغا)

وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اور پھر فرمایا کہ مجھ سے حضرت صہیب نے بیان فرمایا کہ نبی کریم

صلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کا بھی یہی معمول تھا⁶⁶

☆ ایک بار حضرت ابو ہریرہؓ نے فضائل جمعہ پر نبی کریم صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کی تفصیلی حدیث سنائی، اس میں ایک جزویہ تھا کہ ہر جمعہ کو ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، حضرت کعب نے سناؤ کہا: یہ ساعت سال میں ایک بار آتی ہے، حضرت ابو ہریرہؓ نے پوری طاقت سے اس کو رد کیا اور کہا کہ ہر جمعہ کو یہ ساعت آتی ہے، حضرت کعب نے تورات دیکھی اور کہا کہ نبی صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے سچ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری ملاقات عبد اللہ بن سلام سے ہوئی تو میں نے کعب کے ساتھ اپنی نشست کا تذکرہ کیا، عبد اللہ بن سلام نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن وہ ساعت کب آتی ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا، انہوں نے کہا: دن کے آخری وقت میں آتی ہے

⁶⁶ - المختصر من السنن ج ۳ ص ۷۳ حدیث نمبر : ۱۳۲۶ المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (المتوفى : 303هـ) الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية ، 1406 - 1986 تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة عدد الأجزاء : 8 الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

، میں نے کہا یہ کیوں نکر ممکن ہے، جبکہ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، عبداللہ بن سلامؓ نے کہا: کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے وہ بھی نماز کے حکم میں ہے، میں نے کہا بے شک آپؐ نے فرمایا ہے⁶⁷

اس طرح کے بڑے واقعات اور مثالیں ہیں جن میں حضور ﷺ اور صحابہ کرام حسب موقعہ دیگر مذہبی کتابوں کے حوالے دیا کرتے تھے، اور اس کو معیوب نہیں جانتے تھے، اسی لئے بعد کے ادوار میں بھی متعدد علماء نے اپنی تفاسیر قرآن، تشریحات حدیث اور کتب سیرت میں بے تکلف دیگر مذاہب کی کتابوں کے حوالے استعمال کئے ہیں اور کم از کم فریق ثانی کو مطمئن کرنے کی حد تک ان سے استفادہ کیا ہے، وکفیٰ بہ حجۃ۔

خوشگوار تعلقات کے لئے غیر مسلموں کے مذہبی اعمال میں شرکت کرنا
(۳) غیر مسلموں سے مذاکرات یا خوشگوار تعلقات بنانے کے لئے ان کے مذہبی اعمال اور تقریبات میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ قرآن نے شدید لہجہ میں کہا ہے کہ کفر تم سے اس وقت راضی نہ ہو گاجب تک کہ

⁶⁷ - سنن أبي داود ج ۱ ص ۲۰۲ حديث رقم: ۱۰۲۸ المؤلف : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت عدد الأجزاء : 4 مصدر الكتاب : وزارة الأوقاف المصرية وأشاروا إلى جمعية المكتبة الإسلامية [ملاحظات بخصوص الكتاب] 1 - موافق للمطبوع)

تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرلو اور ان کے رنگ میں نہ رنگ جاؤ، اور یہ انسان کی ضلالت اور ایک مومن کے خسارہ کے سوا کچھ نہیں ہے:

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَبَعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ
إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ⁶⁸

ترجمہ: آپ سے یہود و نصاریٰ ہر گز راضی نہ ہونگے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں، آپ فرمادیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو اللہ سے کوئی آپ کو بچانے والا اور مددگار نہ ہو گا۔

یہ مسلمان کی تہذیبی شکست ہے کہ وہ غیر مسلموں کے مذہبی رسوم کی رونق میں اضافہ کرے، جبکہ ہمیں ان کی مشاہدت سے بچنے بلکہ مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، تفصیل گذر چکی ہے، قرآن نے صریح طور پر مقام زور پر جانے سے منع کیا ہے:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ⁶⁹

ترجمہ: یہ لوگ جھوٹ کی جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے۔

حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہاں الزور سے مراد مشرکین

(120: المائدة - 68)

72 - الفرقان: 69

کے مذہبی موقع اور مقامات ہیں⁷⁰

ابوالعالیہ، طاؤس، محمد بن سیرین، ضحاک اور رجیع بن انس وغیرہ کی بھی
یہی رائے ہے، بہت سے علماء نے تمام منکرات کے مقامات کو اس کا مصدقاق قرار
دیا ہے⁷¹

حضرت عمر و بن مرہ ”لَا يَشْدُونَ الزُّورَ“ کی تفسیر میں فرماتے
ہیں:

لَا يَمْلُؤنَ أَهْلُ الْشَّرِكِ عَلَى شَرِكِهِمْ وَلَا يَخْالِطُونَهُمْ⁷²
ترجمہ: یعنی اہل شرک کے شرکیہ افعال کی طرف متوجہ نہیں
ہوتے اور نہ ان کے ساتھ کسی مقام پر جمع ہوتے ہیں۔

حضرت عمر بن الخطاب[ؓ] غیر مسلموں کی مذہبی تقریبات میں شرکت سے
سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے، اور اس کو غضب اللہی کا باعث قرار دیتے تھے:
وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ فَإِنْ

⁷⁰ - الدر المشور في التأويل بالتأور ج ٧ ص ٣٧٧ المؤلف : عبد الرحمن بن أبو بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى : ٩١١ھ)

⁷¹ - تفسير القرآن العظيم ج ٦ ص ١٣٠ المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى : ٧٧٤ھ) الحقق : سامي بن محمد سلامة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الثانية ١٤٢٠ھ - ١٩٩٩ م عدد الأجزاء : ٨)

⁷² - رواه ابو الشخ و سكت عنه ابن تيمية، الاقتضاء: ص ١٨)

السُّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ⁷³

ترجمہ: مشرکین کے تہواروں میں ان کے عبادت خانوں میں
داخل ہونے سے بچو، اس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَنْ بَنَى بِبَلَادِ الْأَعَاجِمِ وَصَنَعَ
نَيْرُوزَهُمْ وَمَهْرَجَاهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ
مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو
سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الصَّوَابُ.⁷⁴

⁷³ -. السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ج ۹ ص ۲۳۷ حديث نمبر : ۱۹۳۳۳ المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني الحقق : الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة : الطبة الأولى - ۱۳۴۴ هـ عدد الأجزاء : ۱۰) : مصنف عبد الرزاق ج ۱ ص ۲۱۱ حديث نمبر: ۱۲۰۹ المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصناعي الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية ، ۱۴۰۳ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي عدد الأجزاء : ۱۱)

⁷⁴-السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ج ۹ ص ۲۳۷ حديث نمبر : ۱۹۳۳۵ المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني الحقق : الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة : الطبة الأولى - ۱۳۴۴ هـ عدد الأجزاء : ۱۰)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں: جو غیر مسلموں کے علاقے میں گھر بنائے اور ان کے تھواروں کی نقل اتارے، ان میں شریک ہو اور اسی حالت میں مر جائے، تو قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔

ابن القاسم سے سوال کیا گیا کہ جو کشتیاں غیر مسلموں کے نہ ہبی میلبوں کی طرف جا رہی ہوں ان میں سوار ہونا کیسا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ مکروہ ہے اس لئے کہ ان کے ساتھ اجتماع پر اللہ کے غضب کا اندیشہ ہے۔⁷⁵

اس سلسلے میں بعض عمومی احادیث سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے، جن میں معصیت کی محفلوں میں شرکت کو باعثِ گناہ قرار دیا گیا ہے، مثلاً

(۱) حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو ایک ولیمہ کی دعوت ملی اور وہ تشریف لے گئے، لیکن وہاں خرافات دیکھ کر واپس لوٹ گئے، لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا:

"من کثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان"

⁷⁵ - الا قضاۓ: ص (۱۱)

شريكًا في عمله" . "الدليلي عن ابن مسعود"⁷⁶

ترجمہ: جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم کے ساتھ ہو گا اور جو کسی قوم کے عمل سے راضی ہو گا وہ اس کے عمل میں شریک مانا جائے گا۔

☆ حضرت عائشہؓ کی ایک روایت آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يغزو جيش الكعبه فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف
بأولهم وآخرهم) . قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم
وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ . قال (يخسف بأولهم
وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ⁷⁷

⁷⁶ - المطالب العالية ج ٥ ص ١٨٢ حدیث نمبر: ١٧٠٣ المؤلف : أبو الفضل
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : ٨٥٢هـ)
مصدر الكتاب : موقع جامع الحديث ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
ج ٩ ص ٢٢ حدیث نمبر: ٢٢٧٣٥ المؤلف : علاء الدين علي بن حسام الدين
المتقى الهندي البرهان فوري (المتوفى : ٩٧٥هـ) الحقق : بكري حيان -
صفوة السقا الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعه : الطبعة الخامسة
، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م)

⁷⁷ - الجامع الصحيح المختصر ج ٢ ص ٧٣٦ حدیث نمبر: ٢٠١٢ المؤلف :
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفی الناشر : دار ابن کثیر ، الیمامۃ

ترجمہ: ایک لشکر کعبہ کی طرف جنگ کے لئے نکلے گا، جب وہ مقام بیداء کے پاس پہونچے گا، تو اس کا اول و آخر سب زمین میں دھنسا دیئے جائیں گے؟ جبکہ ان کے بازار بھی ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس ارادہ سے ان لوگوں میں شامل نہ ہوں گے حضور ﷺ نے فرمایا سب دھنسا دیئے جائیں گے، البتہ قیامت کے دن اپنی نیتوں اور ارادوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔

البتہ امام احمد بن حنبل^{رض} نے کسی ضرورت یا تجارت کی غرض سے جانے کی جبکہ وہاں معصیت وغیرہ نہ ہو گنجائش دی ہے۔

علامہ ابن تیمیہ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے جامع خلاں کے حوالہ سے لکھا ہے:

"کہ امام احمد سے شام میں غیر مسلموں کے بعض مذہبی تہوار مثلًا طور یا نور، اور دیر ابواب وغیرہ میں مسلمانوں کی شرکت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مسلمان وہاں خریداری وغیرہ کے لئے جائیں تو کیا حکم ہے؟ تو امام احمد^{رض} نے جواب دیا کہ صرف خریداری مقصد ہو ان کے عبادت خانوں میں داخل نہ ہوں تو حررج نہیں، امام احمد نے حضرت عمر^{رض} کے حوالہ سے بیان فرمایا کہ وہ تہوار کے موقعہ پر غیر مسلموں کے

- بیروت الطبعة الثالثة ، 1987 - 1407 تحقيق : د. مصطفى ديب البغا
أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6)

عبدات خانوں میں جانے سے منع فرماتے تھے۔⁷⁸

ان آثار و اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی اعمال یا میلوں میں ان کی رعایت و دلجوئی کی خاطر شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔

هم آہنگی برقرار رکھنے کے لئے جائز اعمال کا ترک

(۲) قیام امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لئے ایسے اعمال کا ترک جائز نہیں، جو شرعاً واجب نہیں ہیں، لیکن ان کا تعلق مذہب سے ہو، یا مسلمانوں کے قومی یا تہذیبی شعار کی حیثیت سے شہرت رکھتا ہو، اس میں وہ عمل بھی داخل ہے جو کہ مذہب کا حصہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی متوارث تہذیب و ثقافت کی شناخت بن چکا ہو، اور اس کے ترک سے ترک شعائر کی طرح کفر اپنی بالادستی اور خوشی محسوس کرتا ہو، اس لئے کہ: ☆ یہ کفر کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور مسلمان اپنی مرضی سے کفر کی بالادستی قبول نہیں کر سکتے، قرآن کریم میں ہے:

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا⁷⁹

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہر گز کافروں کو مؤمنوں پر راہ نہیں دے گا۔

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

⁷⁸ - اقتداء الصراط المستقيم: ص ۱۳۰

⁷⁹ - سورة النساء : الآية 141

(الإسلام يعلو ولا يعلى⁸⁰)

ترجمہ: اسلام بلندر ہے گا، اس پر کسی کو بالادستی حاصل نہیں ہوگی۔

☆ اسی طرح یہ اسلام میں مکمل داخلہ کے منافی ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں کسی حلال چیز کو حرام کرنے سے منع فرمایا ہے، صاحب شریعت کے علاوہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، اپنی مرضی سے کسی جائز عمل کو ہمیشہ کے لئے ترک کر دینا یا اس کے ترک کی منظوری دینا بھی نتیجہ کے اعتبار سے تحریم حلال ہی کے زمرہ میں آتا ہے، اور قرآن نے اس کو بھی منوع قرار دیا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ⁸¹

ترجمہ: اے نبی! جس چیز کو اللہ پاک نے حلال کیا اسے آپ حرام کیوں کرتے ہیں۔

جب کہ حضور ﷺ نے کسی جائز چیز کی حرمت کا قانون نہیں بنایا تھا بلکہ صرف عملی طور پر بذات خود اس سے اجتناب کرنے کا رادہ فرمایا تھا، مگر قرآن نے اس کو تحریم کے دائرے میں شامل کر کے اس سے ممانعت کر دی۔

⁸⁰ - الجامع الصحيح المختصر ج ۱ ص ۳۵۲ حدیث نمبر : ۷۸ المؤلف : محمد

بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة -

بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987 تحقيق: د. مصطفى ديب البغا

أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6)

⁸¹ - التحرير : ۱

ایک جگہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيَّبَاتٍ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِلِينَ⁸²

ترجمہ: اے ایمان والو! ان پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ پاک حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔

اس آیت کے پس منظر میں جو واقعہ نقل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک یا چند اشخاص نے ترک لحم، ترک نکاح، ترک نوم وغیرہ کا ارادہ کیا تھا، اور اس کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھا تھا، نہ اس کی تشہیر کی تھی اور نہ دوسروں کو تشکیل، لیکن قرآن نے اسے بھی تحریم حلال قرادیا اور اس طرح کے اقدامات پر ممانعت عائد کر دی،⁸³

در اصل کسی چیز کو جب انسان اپنے لئے حرام کر لیتا ہے، تو رفتہ رفتہ اس

٨٢ - المائدة: ٨٧

⁸³ - الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ج ١٢٩ ص ٣٤٦٩ حدیث نمبر: ٣٤٦٩
المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري المحقق
: الناشر : دار الجليل بيروت + دار الأفاق الجديدة — بيروت الطبعة : عدد
الأجزاء : ثمانية أجزاء في أربع مجلدات ، الدر المنثور في التأویل بالتأویل ج ٣
ص ٣٤٩ المؤلف : عبد الرحمن بن أبو بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى :
٩١١ھ)

کی شناخت دل میں بننے لگتی ہے، اور پھر اس سے متاثر ہو کر دوسرے لوگ یا کم از کم خود اس کی نسل اس شے کے ترک کو بہتر تصور کرنے لگتی ہے، جبکہ اللہ نے اس کو بہتر نہیں بتایا، اسی لئے قرآن نے اس کی جڑ کاٹ دی، اس لئے کہ جو چیز نتیجہ کے اعتبار سے مضرت رسائی ہو شریعت میں وہ عمل اول مرحلے میں ہی ممنوع قرار پاتا ہے،--- باہمی ہم آہنگی کے لئے آج ایک جائز چیز کے ترک پر اتفاق رائے کر لیا جائے، یعنی جائز سمجھتے ہوئے اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن آنے والی نسلیں اس عمل کو نظر یہ بنالیں گی، اور اس کو واقعہ ناجائز یا کم از کم ناپسندیدہ سمجھنے لگیں گی، یہ امت کا زبردست علمی اور قومی نقصان ہو گا، اور پھر اس کو جائز ثابت کرنے کے لئے مسلمانوں کو سخت جدوجہد کرنی ہو گی، بلا وجہ اس طرح کی آزمائش اپنے سر لینے کی کیا ضرورت ہے۔

مذکورہ بالا چیزیں (ترک لحم وغیرہ) گو کہ کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتیں، لیکن بعض مذاہب میں یہ رہبانتی کی تہذیبی علامت سمجھی جاتی ہیں، اور کسی قوم کی تہذیبی شناخت عملی طور پر مذہبی شعار کے درجہ میں ہوتی ہے، اسی لئے اسلام نے تشبہ سے جو ممانعت کی ہے اس میں مذہبی اور تہذیبی دونوں طرح کے امور داخل ہیں۔

☆ نیز اس سے تہذیبی موت کا اندازہ ہے، کیونکہ جب قوم کسی دوسری قوم کے لئے یکطرفہ طور پر اپنی تہذیب چھوڑ دیتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی تہذیبی غیرت اور قومی حیثیت کمزور ہونے لگتی ہے اور اس کا نتیجہ موت

ہے،---

☆ پھر اس کی کیا ضمانت ہے کہ معاملہ ایک ہی چیز کے ترک تک محدود رہے گا اور آئندہ کسی دوسری چیز کے ترک کا مطالبہ سامنے نہیں آئے گا؟۔۔۔۔۔ اس کے بعد کیا ہو گا ہر صاحب بصیرت اس کا اندازہ کر سکتا ہے،۔۔۔۔۔ اپنی چیزوں سے دستبردار ہونے والی قوم کبھی زندہ تصور نہیں کی جاسکتی،۔۔۔۔۔

☆ اسی لئے قرآن نے کفر سے اتفاق رائے یا ان سے بعض منافع کے حصول کے لئے یک طرفہ محبت کی پیشکش کو منوع قرار دیا ہے، کہ یہ کسی زندہ اور غیر قوم کے شایان شان نہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أَوْلِياءَ
ثُلُقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ⁸⁴

ترجمہ: اے ایمان والو! میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، کہ ان کی طرف محبت کی پیشکش کرنے لگ جاؤ، جبکہ وہ تمہارے پاس موجود حقائق کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں۔

یہ آیت کریمہ جس پس منظر میں نازل ہوئی وہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کا واقعہ ہے، انہوں نے فتح مکہ کے موقعہ پر مکہ والوں کو قافلہ اسلام کی پیش قدی سے آگاہ کرنے کے لئے ایک خط بھیجا تھا، تاکہ وہاں موجود ان کے اہل و عیال قریش کی انتقامی کارروائیوں سے محفوظ رہیں، یہ سچ پکے مسلمان اور بذری

صحابی ہیں، خود قرآن نے ان کے ایمان کی شہادت دی ہے، ان کو رسول اللہ ﷺ کی کامیابی، کفار کی ذلت و شکست کا پورا تیقین تھا، اور ان کے خط لکھنے کے پیش نظر ہرگز مسلمانوں کو نقصان پہونچانا نہیں بلکہ محض اپنے اہل و عیال کا محدود مفاد تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس اطلاع کے باوجود کوئی طاقت ان کو ذلت آمیز شکست سے بچا نہیں سکتی، لیکن بظاہر یہ قومی غداری تھی، اور ایک زندہ اور غیور قوم اس طرح کی حرکتوں کو گوارا نہیں کر سکتی تھی، اس لئے اللہ پاک نے ان کو متنبہ فرمایا، مگر ان کے حسن نیت کی بنابر حضور ﷺ نے ان کو معاف فرمادیا⁸⁵ ☆ دراصل جس تھوڑے سے نفع (هم آہنگی، یا وقت فتنہ و فساد سے تحفظ وغیرہ) کے لئے محبت کی قربانی دی جاتی ہے، اس کے متأخر کس قدر سنگین ہو سکتے ہیں، اور آئندہ قوم و ملت کو اس سے کیا نقصانات پہونچ سکتے ہیں، وہ پیش نظر رہنا ضروری ہے، حکم ان متأخر کے اعتبار سے لگے گا، فقہی ضابطہ ہے:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح⁸⁶

⁸⁵ - (تفسير القرآن العظيم ج ٨ ص ٨٢ المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوف : ٧٧٤ھـ) الحرق : سامي بن محمد سلامة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الثانية ١٤٢٠ھـ - ١٩٩٩ م عدد الأجزاء : ٨)

⁸⁶ - البحر المحيط في أصول الفقه ج ٣ ص ١٩٩ المؤلف : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوف : ٧٩٤ھـ) الحرق : محمد محمد تامر الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة : الطبعة الأولى،

ترجمہ: مفاسد کو دور کرنا مصالح کے حصول سے مقدم ہے۔

اس مضمون کے متعدد فقہی ضابطے کتب اصول فقہ میں موجود ہیں۔

ان مباحث سے اس نتیجہ تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں کہ مذاہب و اقوام سے مذکورات اور باہمی اتفاق رائے کے لئے کسی ایسے جائز عمل کے ترک پر معاہدہ نہیں کیا سکتا، جس کا تعلق مذہب سے ہو یا مسلمانوں کی متواتر تہذیب سے،۔۔۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے امداد الفتاویؑ میں ذیحہ گاؤؑ سے دستبرداری کے معاملے پر متعدد علماء و فقهاء عصر کے جو مباحث پیش کئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد قریب کے تقریباً تمام علماء کی بھی رائے ہے کہ مذہبی اور تہذیبی شعائر میں حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، مذہب اور تہذیب و تمدن وجود اگانہ الفاظ ہیں لیکن دونوں کا نتیجہ ایک ہے، الفاظ کا سہارا لیکر فرق کرنا محض کج بحثی ہے، جس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ:

ذیحہ گاؤؑ ایک تہذیبی اور قومی مسئلہ
گائے کا ذیحہ اسلام میں واجب نہیں، جائز ہے، قرآن کریم اور احادیث

1421هـ / 2000م ، الإهماج - السبكي [ج ۳ ص ۲۵] الكتاب : الإهماج
في شرح المنهاج على منهج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي المؤلف :
علي بن عبد الكافي السبكي الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة
الأولى ، 1404 تحقيق : جماعة من العلماء عدد الأجزاء : (3)

صحیحہ دونوں سے اس کا جواز ثابت ہے، قرآن میں حرام و حلال جانوروں کی تفصیلات کے لئے پوری سورہ الانعام موجود ہے، اور اس میں اونٹ اور گائے کو بھی بالصریح حلال جانوروں میں شمار کیا گیا ہے،

وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ⁸⁷

قرآن نے ان دونوں جانوروں کا نام خاص طور پر اس لئے لیا کہ اونٹ یہود کے یہاں حرام تھا، اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک طبقہ نے گائے کا مجسمہ بنانے کی تعلیمات یہود سے الگ ہٹ کر اس کی پرستش شروع کر دی تھی، اس طرح اس کے یک گونہ قدس کا احساس لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک⁸⁸ میں موجود ہے: مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری نے گائے کے بچے کا بت بنایا تھا⁸⁹ قرآن نے ان دونوں جانوروں کو حلال کر کے ان کی حرمت بھی ختم کی اور قدس کا طسم بھی چاک کر دیا۔

نیز احادیث سے بھی ذیحہ گاؤ کا جواز ملتا ہے، حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ:

نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ نِسَائِهِ. وَفِي

⁸⁷ - الانعام: ۱۳۲)

⁸⁸ - سورہ الاعراف: ۱۳۸)

⁸⁹ - الدر المشور في التأویل بالتأویل ص ۳۰۲ المؤلف : عبد الرحمن بن

أبو بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى : ۹۱۱ھ)

حَدِيثُ ابْنِ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ بَقْرَةً فِي حَجَّتِهِ.⁹⁰

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے حجتہ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کی طرف سے اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت عائشہؓ کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی۔

بلکہ عہد نبوت میں گائے کی قربانی کا عام رواج تھا، اور ایک گائے سات آدمی کی طرف سے کافی سمجھی جاتی تھی، حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت ہے

:

فَنَذَبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ نَسْتَرِكُ فِيهَا⁹¹

ترجمہ: کہ ہم سات آدمی طرف سے ایک گائے ذبح کرتے تھے۔
اس مضمون کی متعدد روایات و آثار کتب حدیث میں موجود ہیں، البتہ جس تناظر میں گائے کے ذیجہ کی اجازت دی گئی جیسا کہ ابھی ذکر آیا، اس نے

⁹⁰ - الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ج ۲ ص ۸۸ حدیث نمبر: ۳۲۵۳

المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري المحقق
: الناشر : دار الجليل بيروت + دار الأفاق الجديدة — بيروت الطبعة : عدد
الأجزاء : ثمانية أجزاء في أربع مجلدات)

⁹¹ - الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ج ۲ ص ۸۸ حدیث نمبر: ۳۲۵۲

المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري المحقق
: الناشر : دار الجليل بيروت + دار الأفاق الجديدة — بيروت الطبعة : عدد
الأجزاء : ثمانية أجزاء في أربع مجلدات)

اس کو شعار اسلامی میں تبدیل کر دیا، اور یہ مخصوص اسلامی تہذیب کا حصہ بن گیا

، چنانچہ حضور ﷺ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك

الMuslim الـذـي لـه ذـمـة الله وذـمـة رسولـه فلا تـحـقـرـوا الله في ذـمـته⁹²

ترجمہ: جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے، اور ہمارا

ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے اور اسے اللہ اور رسول کا ذمہ حاصل ہے، پس اس

ذمہ کونہ توڑو۔

شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریع کرتے ہوئے اکل ذبیحہ کو

شعائر اسلام میں شمار کیا ہے کہ جس طرح عبادات میں ہر مذہب کا ایک شعار ہوتا

ہے، اسی طرح اشیاء خور دنوں میں بھی ہر مذہب کا ایک خاص امتیاز ہوتا ہے، اور

انہی امتیازات سے مذہب کو پہچانا جاتا ہے، مثلاً یہود مسلمانوں کا ذبیحہ (اوٹ، اور

ہنود گائے) نہیں کھاتے، توجہ تک ان شعائر کو انسان دل سے قبول نہ کر لے

اور ان کا عملی اظہار نہ کرے وہ مؤمن نہیں ہو سکتا اور نہ اسے اللہ اور رسول کا

⁹² - الجامع الصحيح المختصر ج ۱ ص ۱۵۳ حدیث نمبر: ۳۸۲ المؤلف : محمد

بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة -

بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987 تحقيق : د. مصطفى ديوب البغا

أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6

مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديوب البغا)

ذمہ حاصل ہو سکتا ہے،⁹³

اسی لئے حضرت عبد اللہ بن سلامؓ وغیرہ چند اہل کتاب صحابہ نے اسلام
لانے کے بعد احتیاطاً اونٹ کا گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا، کہ اسلام میں واجب
نہیں، اور یہود میں حرام تھا، لیکن قرآن کریم میں اس پر تنبیہ کی گئی اور اس
طرح کے مخلوط اسلام یا مخلوط تہذیب کو مسترد کر دیا گیا۔

امداد الفتاویٰ میں یہ بحث تقریباً ۲۱ صفحات میں ہے، اور حضرت تھانویؒ⁹⁴
اور دیگر علماء نے پوری شدت کے ساتھ ذیجہ گاؤ یا کسی ایسے تہذیبی عمل سے
دستبردار ہونے کی مخالفت کی ہے جو گو کہ مذہب میں واجب نہیں ہے لیکن شعائر
اسلامی کا حصہ ہے، امداد الفتاویٰ میں جن اکابر علماء و فقہاء کے حوالے سے یہ رائے
نقل کی گئی ہے، یا جنہوں نے اس پر دستخط کئے ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں:

☆ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ ☆ حضرت مولانا عبدالحیلیم
لکھنؤیؒ ☆ حضرت مولانا عبدالوهاب لکھنؤیؒ ☆ حضرت مولانا ابوالغنا
محمد عبدالجید لکھنؤیؒ ☆ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ☆ حضرت مولانا
ابوالأنوار محمد عبدالغفار الحنفی النقشبندی الا عظیمؒ ☆ حضرت مولانا حبیب احمد
الکیرانویؒ ☆ حضرت مولانا انوار الحق امر وہویؒ ☆ حضرت مولانا ظفر احمد

93 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج ۶ ص ۳۳۵ المؤلف : بدر

الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني (المتوفى : ۸۵۵ھ)

ثانوی⁹⁴ اور حضرت مولانا احمد حسن صاحب⁹⁵، تلک عشرۃ کاملہ۔ اور اس رائے کے خلاف کسی کی رائے معلوم نہیں ہے، اس طرح گویا اس پر ایک عصر کے علماء کا اتفاق ہو چکا ہے۔

نظریات باطلہ پر تنقید کے حدود

(۵) اسلام ایک سچانہ ہب ہے، جس نے حق کو کھوں کھول کر بیان کیا ہے اور یہ بھی درست ہے کہ اس نے جھوٹے عقائد اور باطل نظریات کا طسم بھی چاک کیا ہے، یہاں نفی اور اثبات دونوں ہیں، امر بالمعروف کی طرح نہیں عن المنکر بھی ایک اہم ترین فریضہ ہے، اس لحاظ سے باطل افکار و نظریات کے خلاف تنقید کرنے میں مضافات نہیں، بلکہ بعض اوقات اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، اگر سوال کا جواب نہ دیا جائے تو یہ ایک طرح کی شکست سمجھی جاتی ہے، تنقید و تردید نظریاتی جنگ کا لازمی حصہ ہے، اور ہتھیار کی جنگ سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، یہ جسموں پر نہیں دلوں اور دماغوں پر یلغار کرتی ہے، یہ قریب سے نہیں دور سے وار کرتی ہے، اور یہاں فتح و شکست آج نہیں کل کے لئے ہوتی ہے، ایسے ہی موقعہ پر قرآن نے جدال کی اجازت دی ہے:

وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ⁹⁵

ترجمہ: ان کے ساتھ بہتر طریق سے جدال کرو۔

⁹⁴ - امداد الفتاویٰ ج ۳ ص ۷۵ ت ۵۹۶ مطبوعہ ادارہ تالیفات اولیاء دیوبند

⁹⁵ - النحل : ۱۲۵

☆ اس کی ایک بہترین مثال عہد نبوت میں معرکہ احمد میں دیکھنے میں آئی، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہتھیار کی جنگ کے بعد تھوڑی دیر کے لئے زبانی جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت عمر بن الخطاب[ؓ] نے ابوسفیان (جو اس جنگ میں کافروں کے نمائندہ تھے) کے سوالوں کے مسکت جوابات دیئے، اور خود سر دو عالم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِہٖۤ وَسَلَّمَ نے حضرت عمر[ؓ] کو جوابات تلقین فرمائے، کتب حدیث و سیر میں یہ واقعہ معروف ہے⁹⁶

☆ اسی طرح ایک بار نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِہٖۤ وَسَلَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ[ؐ] سے حضرت عیسیٰ کی الہیت اور انبیت پر مباحثہ کیا، آپ[ؐ] نے ان کو اطمینان بخش جوابات دیئے، انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق الٹی سمت نماز پڑھی، صحابہ نے روکنا چاہا مگر آپ[ؐ] نے روکنے سے منع فرمایا، جس کا تذکرہ کتب سیر وغیرہ میں تفصیلاً موجود

⁹⁶ - الجامع الصحيح المختصر ج ۳ ص ۱۳۸۶ / ۱۴۰۷ حدیث نمبر: ۳۸۱۷ المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفی الناشر : دار ابن کثیر ، الیمامۃ – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987 تحقيق : د. مصطفی دیب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة – جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6 مع الكتاب : تعليق د. مصطفی دیب البغا ، السيرة النبوية ج ۳ ص ۲۷ المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى : 774ھ)

ان دونوں موقع پر نبی کریم ﷺ نے جس صبر و سکون، متنant و سنجیدگی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اور مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین فرمائی، وہ تنقید و مناظرہ کے لئے مثالی لائجہ عمل ہے، حضور ﷺ کے طرز عمل، معاملہ کی فہم اور جواب کے لئے الفاظ اور جملوں کے انتخاب سے تنقید کے حدود، آداب پر روشنی پڑتی ہے، اسی چیز کو قرآن مجادلہ احسن کہتا ہے۔ تنقید کے وہ نکات جو طرز نبوت سے مستفاد ہیں، یہ ہیں:

☆ بحث میں اصل نکتہ سے انحراف نہ کیا جائے۔

☆ کسی کی ذاتیات پر حملہ نہ کیا جائے۔

☆ جبرا کا طریق اور جارحانہ رویہ اختیار نہ کیا جائے۔

☆ لب و لہجہ میں متنant و شاششگی کا لحاظ رکھا جائے، اور طعن و تشنج سے گریز کیا جائے۔

☆ جواب برائے جواب میں بھی کوئی غیر حقیقی بات زبان سے نہ نکالی جائے۔

⁹⁷ - الروض الأنف ج ۳ ص ۳ ، ۱۶، المؤلف : أبو القاسم عبد الرحمن بن

عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى : ۵۸۱ھ)، شرح المواهب: ۲/۲۳)

السيرة النبوية ج ۱ ص ۵۷۸ المؤلف : أبو محمد عبد الملك بن هشام

البصرى (المتوفى : ۲۱۳ھ)

☆ فریق مخالف کی اشتعال انگیز کارروائی کے باوجود تحمل اختیار کیا جائے
 ☆ فریق مخالف کی شخصیات اور مذهبی جذبات و تصورات کا ہر ممکن احترام کیا جائے۔

☆ نظریاتی اختلاف ذاتی مراسم اور باہمی تعلقات پر اثر انداز نہ ہو اور ہر طرح حسن اخلاق اور بشاشت کا مظاہرہ کیا جائے وغیرہ۔

اگر تقيیدات میں ان حدود کی رعایت نہ برقراری جائے، تو وہ تقيید نہیں نراع، اور بحث نہیں سب و شتم بن جائے گی، جس سے قرآن کریم نے حکمت آمیز لمحے میں منع کیا ہے، کہ اس سے کوئی نفع ہونے کے بجائے متفق رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان اس نفیات سے اس درجہ مغلوب ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اس کا تیر ہدف کن کن لوگوں کو شکار کر رہا ہے، علامہ آلوسی⁹⁸ نے لکھا ہے کہ میں نے بہت مرتبہ شیعہ سنی کی بحث میں جاہل سنیوں کو دیکھا ہے کہ جب شیعہ حضرت ابو بکر صدیق^{رض} اور حضرت عمر^{رض} کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو جاہل سنی ان کے جواب میں حضرت علیؑ کے لئے نازیبا کلمات استعمال کرنے لگتے ہیں، (معاذ اللہ)⁹⁸

یہ مذهبی مباحثات کی جھوٹی نفیات ہیں جو تقيید و بحث کے حدود و آداب

⁹⁸ - روح المعانی في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانی ج ۵ ص ۳۷۳

المؤلف : شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى :

1270ھ)

سے ناواقفیت کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں، اسی لئے قرآن نے اس طرح کی تقييدوں پر روک لگائی، اور کہا کہ جو لوگ دیگر اقوام کے مذہبی جذبات کا احترام نہیں کرتے، رد عمل کی بنیاد پر اسلامی شخصیات یا عقائد کے خلاف فریق مخالف کی جانب سے جو بھی منفی کارروائیاں ہوں گی یہ لوگ اس کے ذمہ دار قرار پائیں گے، اس لئے کہ ہم جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ دوسرے بھی اسے غلط سمجھیں، ایسے لوگوں کے لئے معارضانہ طریق کے بجائے داعیانہ طریق زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے:

وَلَا تَسْبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُّوا اللَّهَ عَدُوًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فِي نِبْعَثْهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⁹⁹

ترجمہ: اللہ کے سوا جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں، ان کو گالیاں نہ دو کہ وہ بھی اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی بنیاد پر گالیاں دینے لگیں، اسی طرح ہر جماعت کے لئے ان کے اعمال کو ہم نے خوبصورت بنادیا ہے، آخر ان کو اپنے رب کی طرف لوٹا ہے، پھر اللہ ان کو بتائے گا جو یہ کرتے تھے۔

اس آیت کے پس منظر کے بارے میں مفسرین نے حضرت قادہؓ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مسلمان ہتوں کو گالیاں دیتے تھے، جواب میں کافر اللہ کو پاک کو گالیاں دیتے، اللہ پاک نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ اس طرح اللہ کو

کالیاں سنوانے والے خود تم ہو، ایک روایت حضرت ابن عباس[ؓ] سے نقل کی گئی ہے کہ کفار نے حضور ﷺ سے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے بازا آجائیں ورنہ ہم آپ کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی¹⁰⁰ اس طرح کے موقع پر جو نتائج سامنے آتے ہیں اس کی ذمہ داری خود مسلمانوں پر بھی عائد ہوتی ہے،

اسی طرح کے حساس معاملے کی ایک مثال حدیث پاک میں آئی ہے، جس سے زیر بحث مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر^{رض} سے مردی ہے کہ:

قال رسول الله صلی الله علیه و سلم (إن من أکبر الکبائر
أن یلعن الرجل والديه) . قيل يا رسول الله وكيف یلعن الرجل
والديه ؟ قال (يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه
فيسب أمه¹⁰¹

¹⁰⁰ - تفسیر القرآن العظیم ج ۳ ص ۳۱۵ المؤلف : أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی (المتوفی: ۷۷۴ھ) الحقیق : سامی بن محمد سلامة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع الطبعة : الثانية ۱۴۲۰ھ -

1999 م عدد الأجزاء : 8، الدر المنشور في التأویل بالتأویل ج ۱۱۵ ص ۲۳
المؤلف : عبد الرحمن بن أبو بکر، جلال الدین السیوطی (المتوفی: ۹۱۱ھ)

¹⁰¹ - الجامع الصحیح المختصر ج ۵ ص ۲۲۸ حديث نمبر ۵۲۲۸: المؤلف : محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاری الجعفی الناشر : دار ابن کثیر ، الیمامۃ

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بدترین گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالیاں دے، لوگوں نے عرض کیا کہ آدمی اپنے والدین کو گالیاں کیسے دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ اس طرح کہ آدمی دوسرے شخص کے باپ یا ماں کو گالی دے گا تو جواب میں دوسرا شخص بھی اس کے باپ یا ماں کو گالی دے گا۔

قرآن کے مطابق تنقید میں منفی طریق کار اختیار کرنا خود اسلام اور ملت اسلامیہ کو بالواسطہ نقصان پہونچانے کے متادف ہے، علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی یہ نصِ محکم ہے اور ملت اسلامیہ کے لئے یہ حکم آج بھی بدستور باقی ہے:

وَحُكْمُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ بَاقٍ فِي الْأَمَةِ ، فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ
يَتَعَرَّضَ إِلَى مَا يُؤْدِي إِلَى سبِّ الْإِسْلَامِ أَوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
، أَوِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَبَرَ عَنِ الْأَصْنَامِ بِالذِّينِ ، وَهِيَ لَا تَعْقِلُ ،
وَذَلِكَ عَلَى مُعْتَقَدِ الْكُفَّارِ فِيهَا¹⁰²

- بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987 تحقيق : د. مصطفى ديوب البغا
أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6
مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديوب البغا)

¹⁰² - الجوادر الحسان في تفسير القرآن ج ۱ ص ۳۹۲ المؤلف : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الشعالي (المتوفى : ۸۷۵ھـ) ، الجامع لأحكام

کسی مذہب میں موجود حقائق کو نقل کرنا برا نہیں ہے، بلکہ تحریر آمیز

انداز میں بیان کرنا برآ ہے¹⁰³

اسی آیت سے سد ذرائع کا اصول لکھا ہے، یعنی جو چیز سبب معصیت بنے وہ بھی معصیت ہے گو کہ فی الواقع وہ معصیت نہ ہو بلکہ کار طاعت ہو، البتہ ابن العربي وغیرہ کئی علماء نے صراحةً کی ہے کہ یہ حکم صرف مباحثات کے لئے ہے، مثلاً معمودان باطل پر تقيید کرنا واجب نہیں ہے، جائز ہے اور باعث ثواب ہے، لیکن اگر اس سے ضرر کا اندیشه ہو تو یہ کار خیر ملتوی رکھا جائے گا، لیکن اگر کسی فرض کی انجام دہی میں کوئی فتنہ پیدا ہو تو فتنہ کے خوف سے فرض کو ترک نہیں کیا جائے گا۔¹⁰⁴

القرآن ج ٧ ص ٦١ المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : ٦٧١هـ) المحقق : هشام سمير البخاري الناشر : دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية ، الطبعة : ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٣م)

¹⁰³ - روح المعانی في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانی ج ٥ ص ٤٧٥

المؤلف : شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى : ١٢٧٠هـ)

¹⁰⁴ - حوالہ بالا، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ج ٢ ٣١٣ المؤلف : أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى : ٩٨٢هـ)، أحكام

القرآن ج ٢ ص ٢٢٦ المؤلف : القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي

مشترکہ سماجی مسائل پر دیگر اہل مذاہب کے ساتھ اشتراک

(۶) مشترکہ سماجی مسائل جیسے غربت، کرپشن، بے حیائی، عورتوں، مزدوروں اور عمر دراز لوگوں کے ساتھ زیادتی وغیرہ پر دیگر اہل مذاہب کے ساتھ مذاکرات میں اشتراک درست ہے، اور ان چیزوں کے خاتمہ یا اصلاح کے لئے مشترکہ جدوجہد کی جاسکتی ہے، عہد نبوت میں اس کی بہترین مثالیں حلف الغضول، تجدید حلف خزانہ اور میثاق مدینہ وغیرہ موجود ہیں، جن میں مختلف اقوام اور قبائل نے چند مشترکہ سماجی اور سیاسی مسائل پر معاہدے کئے تھے، ان میں غریبوں اور مظلوموں کی مدد، ظالموں کا مقابلہ اور برائیوں کا خاتمہ وغیرہ جیسے مسائل بھی شامل تھے،¹⁰⁵ اگذشتہ صفحات میں اس پر تفصیل سے گفتگو آچکی ہے

المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى : 543هـ) المحقق : علي محمد البحاوي
الناشر : دار إحياء الثراث العربي بيروت - لبنان الطبعة : الطبعة الأولى
الجامع لأحكام القرآن ج ۷ ص ۲۱ المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671هـ) المحقق : هشام سمير البخاري الناشر : دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة : 1423هـ / 2003م)

- (سنن البيهقي الكبرى ج ۲ ص ۳۶۷ حدیث نمبر : ۱۲۸۵۹ المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 - 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10، تهذيب الآثار (الجزء المفقود) ج ۱ ص ۱۷ أبو جعفر محمد بن جریر

دیگر اہل مذاہب کے ساتھ سیاسی اشتراک

(۷) جمہوری ممالک میں سیاسی حصہ داری کی بڑی اہمیت ہے، اگر مسلمان اس میں اپنا کردار ادا نہ کریں تو کئی محاذوں پر وہ برادران و طن سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور جس ملک میں مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہوں وہاں کسی ایک قوم کا تھا اپنے بل بوتے سیاسی استحکام حاصل کرنا آسان نہیں ہے، ایسے حالات میں دیگر اہل مذاہب کی سیاسی جماعتوں سے اشتراک عمل کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ مسلمان مشترکہ بنیادوں پر مساوی حیثیت سے اس میں شریک ہوں اور ان کا قومی اور ملی و قارب مجرونہ ہو، اگر ملک میں مختلف سیاسی جماعتوں کی ترقی ہوں تو ترجیح ان جماعتوں کو دی جانی چاہئے جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے معتدل اور روادانہ خیالات کی حامل ہوں، اور اسلامی عقائد و نظریات سے ان کے خیالات متصادم نہ ہوں، ان کے مقابلے میں ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا ہر گز جائز نہ ہو گا جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے سخت گیر اور متشددانہ نظریات رکھتی ہو، البتہ سخت جماعت اگر اپنے سیاسی منشور سے مسلمانوں سے متصادم نظریات خارج کرنے اور صرف مشترکہ مسائل پر اتحاد کے لئے آمادہ ہو اور ملک

الطبری سنة الولادة 224 هـ / سنة الوفاة 310 هـ - تحقيق علي رضا بن عبد الله بن علي رضا الناشر دار المأمون للتراث سنة النشر 1416 هـ - 1995 م مكان النشر دمشق / سوريا عدد الأجزاء 1)

میں کوئی نسبتاً اعتدال پسند جماعت موجود نہ ہو اور اس کے ساتھ اشتراک کئے بغیر مسلمانوں کے سیاسی یا سماجی استحکام کی کوئی صورت موجود نہ ہو، مسلمانوں کا اس کے ساتھ اشتراک بھیثیت مذہب اس کے فروغ کا باعث نہ بنے، نیز مسلمانوں کے قومی اور ملی و قارپر کوئی آنچ نہ آئے تو ایسی جماعت سے بھی سیاسی تعاون عمل کی بدرجہ مجبوری گنجائش ہو گی، اس کا مأخذ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اہل کتاب کو مشترکہ بنیادوں پر اتحاد کی دعوت دی گئی ہے:

فُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ الْآيَةُ¹⁰⁶

ترجمہ: "اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بنیاد پر جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔"

جبکہ ان میں یہود بھی تھے، اور یہود کی اسلام دشمنی پر خود قرآن نے مہر لگادی ہے:

لَتَسْجُدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلْيَهُودُ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا الْآيَةُ¹⁰⁷

ترجمہ: "یقیناً تم کو (عملی زندگی میں) مسلمانوں کے سب سے بد ترین دشمن یہود اور مشرکین میں گے۔"

¹⁰⁶ - آل عمران: ۶۳

¹⁰⁷ - المائدۃ: ۸۲)

اس کے باوجود خود نبی کریم ﷺ نے ان کو میثاق مدینہ میں شامل فرمایا، گوکہ مدینہ منورہ میں حضور ﷺ کی حیثیت ایک بالادست قوت کی تھی، لیکن کتاب اللہ کے عموم سے حالت مغلوبی میں بھی اس سے استفادہ کی گنجائش ہے، بشرطیکہ مسلمان مساوی حصہ دار کی حیثیت سے ان کے ساتھ شریک ہوں اور مذکورہ بالاشرائط کی تکمیل ہوتی ہو۔

مذاکرات میں اگر خواتین نمائندے بھی شریک ہوں

(۸) دوسرے اہل مذاہب سے مذاکرات کے وقت اگر نمائندگی کے لئے خواتین شریک ہوں، یا اس طبقہ پر بحیثیت مقرر موجود ہوں، تو مسلمانوں کی مذہبی نمائندگی کرنے والوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے؟ یہ اس دور کا بہت حساس مسئلہ ہے اس لئے کہ بے پر دگی اور صفتی اختلاط کے اس دور میں اکثر اہل مذاہب نے پرده کو اپنے نظام سے خارج کر دیا ہے، یہ مسلمانوں کے لئے بہت آزمائشی مقام ہے، خاص طور پر مذہبی طبقہ کے لئے، اس لئے کہ اس کا ہر عمل مذہب کے آئینے میں دیکھا جائے گا، اور وہ مسلمانوں کے لئے بھی نمونہ عمل بنے گا اور دوسروں کے لئے بھی مثال،۔۔۔ اس معاملے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کم از کم مسلمانوں کو اس معاملے میں سپر انداز نہیں ہونا چاہئے، اس لئے کہ قرآن و حدیث اور خیر القرون میں کہیں بے پرده سیاست یا بے پرده مذاکرات کی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی، یہ موجودہ زمانے کا فتنہ ہے، مذاکرات کی خاطر اسلام کے مذہبی تصورات اور معروف نظریات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا

، میری رائے میں ایسی مجالس میں مسلمانوں کے مذہبی طبقہ کو ہرگز شرکت نہیں کرنی چاہئے، اس لئے کہ یہ معصیت کے ساتھ اشتراک ہو گا، اور معصیت والی محفلوں میں مذہبی قائدین کا اختیار و رضا کے ساتھ شریک ہونا مناسب نہیں، اس سلسلے میں بعض آیات و احادیث اور آثار سلف سے استیناس کیا جاسکتا ہے:

قرآن کریم میں اللہ والوں کی صفات بیان کی گئی ہے :

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الرُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّعْوَ مَرُوا كِرَاماً¹⁰⁸

ترجمہ: یہ جھوٹ کی جگہوں پر نہیں جاتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گذرتے ہیں تو شریفانہ گذر جاتے ہیں، (یعنی اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے)۔

الزور کی تفسیر مفسرین نے شرک یا فسق و فجور کے مقامات سے کی ہے

محمد بن حنفیہ نے لہو و لعب کی محفلوں کو اس کا مصدقاق قرار دیا ہے¹⁰⁹ قرآن

کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِّعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفِّرُ

72 - الفرقان:

¹⁰⁸ - تفسیر القرآن العظیم ج ۲ ص ۱۳۰ المؤلف : أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثير القرشی الدمشقی (المتوفی : ۷۷۴ھ) الحق : سامی بن محمد سلامة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع الطبعة : الثانية ۱۴۲۰ھ - ۱۹۹۹ م عدد الأجزاء : 8)

بِهَا وَيُسْتَهْزِأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَحُوصُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
إِنَّكُمْ إِذَا مِنْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

110

ترجمہ: اللہ پاک نے تم پر کتاب میں نازل کیا ہے جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر و استہزاء کیا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، جب تک کہ وہ دوسری بات نہ شروع کر دیں، ورنہ تم انہی کے مثل ہو جاؤ گے، بے شک اللہ پاک منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت اہن عباسؑ کے حوالے سے منقول ہے کہ اس میں ہر بدعت اور منکر شامل ہے یعنی مسلمانوں کو بدعاں و منکرات والی مجالس میں بیٹھنا درست نہیں،¹¹¹

☆ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ایک محفل کے پاس سے گزرے، جہاں لہو لعب کا بازار گرم تھا تو خاموشی سے گزر گئے، اور اس کی طرف رخ بھی نہ کیا، اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(140) النساء :¹¹⁰

¹¹¹ - لباب التأویل في معانی التزییل ج ۲ ص ۱۹۳ المؤلف : علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشیحی أبو الحسن ، المعروف بالخازن (المتوفی : 741ھ)

لقد أصبح ابن مسعود وأمسي كريما" ¹¹²

ترجمہ: ابن مسعود کی صحیح بھی کریم اور شام بھی کریم ہے۔

☆ اللہ کے رسول ﷺ نے ایسے دسترخوان پر شرکت سے منع فرمایا

جہاں شراب کا دور چل رہا ہو:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَىٰ مَائِدَةٍ

يدار عليها الخمر، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من
حديث طاروس عن جابر إلا من هذا الوجه قال محمد بن إسماعيل ليث بن أبي
سليم صدوق وربما يهم في الشيء قال محمد بن إسماعيل وقال أحمد بن حنبل
ليث لا يفرح بحديثه كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه قال

¹¹² - ورواه ابن عساكر كما في المختصر لابن منظور (55/14)

من طريق ابراهيم بن ميسرة به. بحواله : تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص

١٣٠ المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي
(المتوفى : ٧٧٤هـ) الحقيق : سامي بن محمد سلامه الناشر : دار طيبة للنشر
والتوزيع الطبعة : الثانية ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ م عدد الأجزاء : ٨ ، جامع

البيان في تأویل القرآن ج ١٩ ص ١٣٦ المؤلف : محمد بن جریر بن یزید بن

کثیر بن غالب الاملي، أبو جعفر الطبری (المتوفى : ٣١٠هـ) الحقيق : أحمد

محمد شاکر الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، ١٤٢٠ هـ -

2000 م عدد الأجزاء : 24

الشيخ الألباني : حسن¹¹³

ترجمہ: جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دستر خوان
پرنہ بیٹھے جہاں شراب کی گردش ہو رہی ہو۔

*عن علي قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه و سلم .فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع¹¹⁴.

حضرت علیؑ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دعوت دی
اور کھانے کا انتظام کیا، لیکن آپ نے میرے گھر میں تصاویر دیکھیں تو واپس لوٹ
گئے۔

عن نافع عن أسلم أن عمر حين قدم الشام صنع له رجل
من النصارى طعاما وقال لعمر إني أحب أن تجئني وتكرمي أنت
وأصحابك وهو رجل من عظماء النصارى فقال عمر إنا لا ندخل

¹¹³ -(الجامع الصحيح سنن الترمذی ج ۵ ص ۱۱۳ المؤلف : محمد بن عیسیٰ أبو عیسیٰ الترمذی السلمی الناشر : دار إحياء التراث العربي - بیروت تحقیق : أَحْمَدُ مُحَمَّدٌ شَاكِرٌ وَآخَرُونَ عَدْدُ الْأَجْزَاءِ : ۵ الْأَحَادِيثُ مَذَلَّةً بِأَحْكَامِ الْأَلْبَانِ عَلَيْهَا)

¹¹⁴ -سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۱۱۳ حدیث نمبر : ۳۳۵۹ المؤلف : محمد بن یزید أبو عبد اللہ القزوینی الناشر : دار الفکر - بیروت تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي عدّد الأجزاء : ۲ مع الكتاب : تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي)

كَنَائِسُكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُورِ الَّتِي فِيهَا يَعْنِي التَّمَاثِيلِ¹¹⁵

ترجمہ: حضرت نافع سلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر شام تشریف لے گئے تو ایک معروف اور معزز نصرانی نے کھانے کی دعوت دی، اور اس نے آپ سے خواہش ظاہر کی کہ آپ ہمارے عبادت خانہ تشریف لا کر ہمیں عزت بخشیں، حضرت عمر نے جواب دیا کہ تمہارے عبادت خانوں میں تصاویر ہوتی ہیں اس لئے ہم وہاں حاضر نہیں ہو سکتے۔

ان آیات و روایات اور آثار سلف کی روشنی میں غیر شرعی مجالس میں اپنے اختیار رورضا سے بیٹھنے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا، البته علامہ خازن نے آیت استہزاء کے تحت علماء کا فتویٰ نقل کیا ہے، جس سے مجبوری کی صورت میں منکرات والی مجلسوں میں بادل ناخواستہ شرکت کی گنجائش دی گئی ہے، بشرطیہ خود کسی منکر کا مرتكب نہ ہو:

قال العلماء وهذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر
ومن رضي بمنكر أو خالط أهله كان في الإثم بمترليهم إذا رضي له
وإن لم يباشره فإن جلس إليهم ، ولم يرض بفعلهم بل كان ساخط
له وإنما جلس على سبيل التقية والخوف فالأمر فيه أهون من

¹¹⁵ - مصنف عبد الرزاق ج ۱ ص ۳۲۱ حدیث نمبر ۱۱۲۱ المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية ، 1403 تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي عدد الأجزاء : ۱۱)

المجالسة مع الرضا وإن جلس مع صاحب بدعة أو منكر ولم يخض في بدعته أو منكره فيجوز الجلوس معه مع الكراهة وقيل لا يجوز بحال والأول أصح¹¹⁶

ترجمہ: علماء نے کہا ہے کہ جو کفر پر راضی ہو وہ کافر ہے اور جو منکر پر راضی ہو اور ایسے لوگوں کے ساتھ میل جوں رکھے، تو گناہ میں دونوں برابر ہیں، اگرچیکہ خود گناہ کا ارتکاب نہ کرے، البتہ اگر ان کے اعمال سے راضی نہ ہو اور محض خوف یا کسی اندیشہ کی بنا پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہو تو معاملہ رضامندی والوں کی ہے نسبت آسان ہے، ایسی حالت میں اہل بدعت یا اہل منکر کے ساتھ بیٹھنا کراہت کے ساتھ درست ہے بشرطیکہ خود منکر کا مر تکب نہ ہو، جبکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کسی حال میں ان کے ساتھ نشست جائز نہیں، مگر پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

لیکن قائدین اور علماء کے لئے قباحت پھر بھی برقرار رہے گی، اس لئے کہ اس سے ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غلط پیغام جائے گا، اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہؓ کا طرز عمل ایک بہترین نمونہ ہے، جس کا تذکرہ ہماری تمام کتب فقہ میں ہے، ہمارے مذہبی طبقے کو اسے نظر انداز نہیں کرنا

¹¹⁶ - لباب التأویل فی معانی التزییل ج ۲ ص ۱۹۷ المؤلف : علاء الدین علی بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحی أبو الحسن ، المعروف بالخازن (المتوفی : ۷۴۱ھ)

چاہئے، اس میں بڑے منافع ہیں، علامہ کاسانی¹¹⁷ وغیرہ کئی فقہاء حفییہ نے لکھا ہے کہ مجلس خیر (مثلاً ولیمہ، جنازہ وغیرہ) میں بھی اگر شرکی آمیزش ہو جائے تو بڑی شخصیت کو جو اس پر اثر انداز ہو سکتی ہو اس میں اصلاح کے ارادے سے ضرور شرکت کرنی چاہئے، مگر وہ قائدین جو اصلاح کی قدرت نہ رکھتے ہوں ان کا شرکیہ ہونا درست نہیں البتہ عام لوگ دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ شرکیہ ہو سکتے ہیں، مگر شرکیہ نہ ہونا بہتر ہے، اور یہ حکم اس وقت ہے جب پہلے سے معلوم نہ ہو، اگر معلوم ہو تو شرکت نہیں کرنی چاہئے، خاص طور پر علماء اور فقہاء کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اکثر کتابوں میں یہ عبارت تھوڑے فرق کے ساتھ موجود ہے:

هذا إذا لم يَعْلَمْ بِهِ حق دخُل فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ الدُّخُولِ يَرْجِعُ
وَلَا يَدْخُلُ وَقِيلَ هذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ فَإِنْ كَانَ لَأَمْكُثُ
بَلْ يَخْرُجُ لِأَنَّ فِي الْمُكْثِ اسْتِخْفَافًا بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ وَتَجْرِيَةً لِأَهْلِ
الْفِسْقِ عَلَى الْفِسْقِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَصَبِّرْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
مَحْمُولٌ عَلَى وَقْتٍ لَمْ يَصِرْ فِيهِ مُقْتَدًّا بِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَوْ صَارَ لَمَّا

117 صبر

¹¹⁷ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٥ ص ١٢٨ علاء الدين الكاساني
سنة الولادة / سنة الوفاة 587 الناشر دار الكتاب العربي سنة النشر 1982
مكان النشر بيروت عدد الأجزاء 7، تبيان الحقائق شرح كنز الدفائق ج ٦
ص ١٣ فخر الدين عثمان بن علي الزيلي الحنفي. الناشر دار الكتب

ترجمہ: یہ تفصیل اس وقت ہے جب پہلے سے معلوم نہ ہو لیکن معلوم ہو تو شریک نہ ہو، بعض لوگوں نے کہا ہے یہ اس وقت ہے جب وہ مقتدی نہ ہو، لیکن اگر مقتدا اور امام ہو تو ایسی مجلسوں میں بالکل نہ ٹھہرے، اس لئے کہ اس سے علم اور دین کی توبین اور فاسقوں کی حوصلہ افزائی ہو گی جو جائز نہیں، اور امام صاحب گاؤاقہ ان کے مقتدی بننے سے پہلے کا ہے، ورنہ وہ صبر نہ کرتے۔
واللہ اعلم بالصواب و علمہ اتم و احکم۔

اخترا امام عادل قاسمی

جامعہ ربانی منور واشریف، سمستی پور بہار

خلاصہ جوابات

(۱) مختلف قومیں جب ایک مقام پر رہتی ہیں تو کئی سیاسی یا سماجی مسائل کے لئے باہم ایک دوسرے سے مذاکرات اور گفت و شنید کی ضرورت پڑتی ہے، جن کی بنیاد ایک دوسرے کے جذبات اور تقاضوں کے احترام اور عایت پر ہوتی ہے، قیام امن، بقاء باہم اور فتنہ و فساد سے بچنے کے لئے شریعت مطہرہ میں اس کی گنجائش ہے، بلکہ اس کی عملی مثالیں بھی عہد نبوت میں موجود ہیں البتہ یہ مذاکرات صرف سیاسی یا سماجی بنیادوں پر ممکن ہیں، مذہبی بنیادوں پر نہیں، نیز ان مذاکرات سے پیدا ہونے والی باہمی قربت ممنوعہ موالات میں داخل نہ ہو اور نہ تہذیبی احتلاط کا اندریشہ پیدا ہو۔

(۲) مختلف مذاہب کے درمیان بہت سی تعلیمات میں اشتراک پایا جاتا ہے، اصول سیاست، اصول اخلاق، سماجی قواعد بلکہ بہت سے مذہبی تصورات میں بھی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، خاص طور پر آسمانی مذاہب میں اس طرح کی نظیریں بہت ملتی ہیں، مذاکرات کے درمیان کسی نقطہ اتفاق تک پہنچنے، کسی مشترکہ کاز کو قوت پہنچانے کے لئے، یا اتمام جنت کے لئے دیگر مذاہب کی کتابوں کے حوالے دیئے جاسکتے ہیں اور ان سے محدود استفادہ بھی کیا جاسکتا ہے، اس میں کوئی مضاائقہ نہیں، بلکہ بعض دفعہ فریق ثانی کے لئے یہ زیادہ مؤثر اور قبل قبول ثابت ہوتا ہے۔

(۳) غیر مسلموں سے مذاکرات یا خوشنگوار تعلقات بنانے کے لئے ان کے مذہبی اعمال اور تقریبات میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ امام احمد بن حنبلؓ نے کسی ضرورت یا تجارت کی غرض سے جانے کی وجہ وہاں معصیت وغیرہ نہ ہو گنجائش دی ہے۔

(۴) قیام امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لئے ایسے اعمال کا ترک جائز نہیں، جو شرعاً واجب نہیں ہیں، لیکن ان کا تعلق مذہب سے ہو، یا مسلمانوں کے قومی یا تہذیبی شعار کی حیثیت سے شہرت رکھتا ہو، اس میں وہ عمل بھی داخل ہے جو کہ مذہب کا حصہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی متوارث تہذیب و ثقافت کی شناخت بن چکا ہو، اور اس کے ترک سے ترک شعائر کی طرح کفر اپنی بالادستی اور خوشی محسوس کرتا ہو،

(۵) اسلام ایک سچا مذہب ہے، جس نے حق کو کھول کر بیان کیا ہے اور یہ بھی درست ہے کہ اس نے جھوٹے عقائد اور باطل نظریات کا ظلم بھی چاک کیا ہے، یہاں نفی اور اثبات دونوں ہیں، امر بالمعروف کی طرح نہیں عن المنکر بھی ایک اہم ترین فریضہ ہے، اس لحاظ سے باطل افکار و نظریات کے خلاف تنقید کرنے میں مضافات نہیں، بلکہ بعض اوقات اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، اگر سوال کا جواب نہ دیا جائے تو یہ ایک طرح کی شکست سمجھی جاتی ہے، تنقید و تردید نظریاتی جنگ کا لازمی حصہ ہے، اور ہتھیار کی جنگ سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، یہ جسموں پر نہیں دلوں اور دماغوں پر یلغار کرتی ہے، یہ قریب سے نہیں دور

سے وار کرتی ہے، اور یہاں فتح و شکست آج نہیں کل کے لئے ہوتی ہے، ایسے ہی موقع پر قرآن نے جدال کی اجازت دی ہے

البته تقیدات میں حدود کی رعایت نہ برتری جائے، تو وہ تقید نہیں نزاع
اور بحث نہیں سب و شتم بن جائے گی، جس سے قرآن کریم نے حکمت آمیز
لنجے میں منع کیا ہے، کہ اس سے کوئی نفع ہونے کے بجائے منفی رد عمل پیدا ہوتا
ہے، اور بسا اوقات انسان اس نفسیات سے اس درجہ مغلوب ہو جاتا ہے کہ وہ خود
بھی نہیں جانتا کہ اس کا تیر ہدف کن کن لوگوں کو شکار کر رہا ہے، یہ مذہبی
مباحثات کی جھوٹی نفسیات ہیں جو تنقید و بحث کے حدود و آداب سے ناداقیت کی
بانپر پیدا ہوتی ہیں، اسی لئے قرآن نے اس طرح کی تنقیدوں پر روک لگائی، اور
کہا کہ جو لوگ دیگر اقوام کے مذہبی جذبات کا احترام نہیں کرتے، رد عمل کی بنیاد
پر اسلامی شخصیات یا عقائد کے خلاف فریق مخالف کی جانب سے جو بھی منقی
کاروائیاں ہوں گی یہ لوگ اس کے ذمہ دار قرار پائیں گے، اس لئے کہ ہم جس
چیز کو غلط سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ دوسرے بھی اسے غلط سمجھیں، ایسے لوگوں
کے لئے معارضانہ طریق کے بجائے داعیانہ طریق زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے۔

(۶) مشترکہ سماجی مسائل جیسے غربت، کرپش، بے حیائی، عورتوں
، مزدوروں اور عمر دراز لوگوں کے ساتھ زیادتی وغیرہ پر دیگر اہل مذاہب کے
ساتھ مذاکرات میں اشتراک درست ہے، اور ان چیزوں کے خاتمه یا اصلاح کے
لئے مشترکہ جدوجہد کی جاسکتی ہے، عہد نبوت میں اس کی بہترین مثالیں حلف

الفضل، تجدید حلف خزانہ اور بیانق مدنیہ وغیرہ موجود ہیں، جن میں مختلف اقوام اور قبائل نے چند مشترکہ سماجی اور سیاسی مسائل پر معاہدے کئے تھے، ان میں غریبوں اور مظلوموں کی مدد، ظالموں کا مقابلہ اور برائیوں کا خاتمہ وغیرہ جیسے مسائل بھی شامل تھے۔

(۷) جمہوری ممالک میں سیاسی حصہ داری کی بڑی اہمیت ہے، اگر مسلمان اس میں اپنا کردار ادا نہ کریں تو کئی محاذوں پر وہ برادران وطن سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور جس ملک میں مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہوں وہاں کسی ایک قوم کا تھا اپنے بل بوتے سیاسی استحکام حاصل کرنا آسان نہیں ہے، ایسے حالات میں دیگر اہل مذاہب کی سیاسی جماعتوں سے اشتراک عمل کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ مسلمان مشترکہ بنیادوں پر مساوی حیثیت سے اس میں شریک ہوں اور ان کا قومی اور ملی و قار مجروح نہ ہو، اگر ملک میں مختلف سیاسی جماعتوں ہوں تو ترجیح ان جماعتوں کو دی جانی چاہئے جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے معتدل اور روادانہ خیالات کی حامل ہوں، اور اسلامی عقائد و نظریات سے ان کے خیالات متصادم نہ ہوں، ان کے مقابلے میں ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا ہر گز جائز نہ ہو گا جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے سخت گیر اور متشددانہ نظریات رکھتی ہو، البتہ سخت جماعت اگر اپنے سیاسی منشور سے مسلمانوں سے متصادم نظریات خارج کرنے اور صرف مشترکہ مسائل پر اتحاد کے لئے آمادہ ہو اور ملک میں کوئی نسبتاً اعتدال پسند جماعت موجود نہ ہو اور اس کے ساتھ اشتراک کئے بغیر

مسلمانوں کے سیاسی یا سماجی استحکام کی کوئی صورت موجود نہ ہو، مسلمانوں کا اس کے ساتھ اشتراک بھیتیت مذہب اس کے فروغ کا باعث نہ بنے، نیز مسلمانوں کے قومی اور ملی وقار پر کوئی آنچ نہ آئے تو ایسی جماعت سے بھی سیاسی تعاون عمل کی بدرجہ مجبوری گنجائش ہو گی،

(۸) دوسرے اہل مذاہب سے مذاکرات کے وقت اگر نمائندگی کے لئے خواتین شریک ہوں، یا اسٹیچ پر بھیتیت مقرر موجود ہوں، تو مسلمانوں کی مذہبی نمائندگی کرنے والوں کو کیا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہئے؟ یہ اس دور کا بہت حساس مسئلہ ہے اس لئے کہ بے پردوگری اور صنفی اختلاط کے اس دور میں اکثر اہل مذاہب نے پرده کو اپنے نظام سے خارج کر دیا ہے، یہ مسلمانوں کے لئے بہت آزمائشی مقام ہے، خاص طور پر مذہبی طبقہ کے لئے، اس لئے کہ اس کا ہر عمل مذہب کے آئینے میں دیکھا جائے گا، اور وہ مسلمانوں کے لئے بھی ختمہ عمل بنے گا اور دوسروں کے لئے بھی مثال،۔۔۔ اس معاملے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کم از کم مسلمانوں کو اس معاملے میں سپر انداز نہیں ہونا چاہئے، اس لئے کہ قرآن و حدیث اور خیر القرون میں کہیں بے پرده سیاست یا بے پرده مذاکرات کی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی، یہ موجودہ زمانے کا فتنہ ہے، مذاکرات کی خاطر اسلام کے مذہبی تصورات اور معروف نظریات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، میری رائے میں ایسی مجالس میں مسلمانوں کے مذہبی طبقہ کو ہرگز شرکت نہیں

کرنی چاہئے، اس لئے کہ یہ معصیت کے ساتھ اشتراک ہو گا، اور معصیت والی محفلوں میں مذہبی قائدین کا اختیار و رضا کے ساتھ شریک ہونا مناسب نہیں۔

انتظام عادل قاسمی

خادم جامعہ ربانی منور واشریف، سمسمی پور بہار
۲۲ / محرم الحرام ۱۴۳۷ھ م ۵ / نومبر ۲۰۱۵ء